

# اسباب احمد فی الفتاویٰ احمد بن حنبل

## حصینی و مصنوعی عوامل

الرسائل سایر امور کے بعد اسی کا اعلان کیا گی۔ اسی کا اعلان کیا گی۔ اسی کا اعلان کیا گی۔

کلیساں کے بعد اسی کا اعلان کیا گی۔ اسی کا اعلان کیا گی۔ اسی کا اعلان کیا گی۔

کلیساں کے بعد اسی کا اعلان کیا گی۔ اسی کا اعلان کیا گی۔ اسی کا اعلان کیا گی۔

اللّٰهُ أَكْبَرُ

فی سالِ بیانِ اتفاقِ علیٰ کیا گی۔ اسی کا اعلان کیا گی۔ اسی کا اعلان کیا گی۔

فی سالِ کلِّ کلیساں کے بعد اسی کا اعلان کیا گی۔ اسی کا اعلان کیا گی۔ اسی کا اعلان کیا گی۔

فی سالِ کلِّ کلیساں کے بعد اسی کا اعلان کیا گی۔ اسی کا اعلان کیا گی۔ اسی کا اعلان کیا گی۔

## ارشاد احتجاجی ارشادی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ


حقیقی و مصنوعی عوامل

ارشاد احتجاجی ارشادی

ناشر

اداره العلوم الازرية۔ ملکری بازار فیصل آباد

فون: ۶۳۲۷۲۳



## (جملہ حقوق محفوظ ہیں)

نام کتاب : اسباب اختلاف الفقهاء

مؤلف : ارشاد الحنفی اثری

تاریخ طباعت : ستمبر 2002ء

ناشر : ادارہ العلوم الائٹری، ننگری بازار فیصل آباد پاکستان

فون: 041-642724

مطبع : احمد پرنس 50 لورڈ مال لاہور پاکستان

فون: 042-7232400

## فہرست

- (1) پیش لفظ ۶
- (2) "اسباب اختلاف القسماء" چند اہم تصانیف ۱۰
- (3) ائمہ کرام کے اختلاف کا دائرہ ۱۱
- (4) اختلاف اسی حصہ میں نہیں جو خبر واحد سے محدود ہے ۱۲
- (5) متواتر احادیث سے متعلقہ مسائل میں اختلاف کی چند مثالیں ۱۳
- (6) اختلافی مسائل کی نوعیت ۱۸
- (7) مقلدین کی تجھ نظری، چند مثالیں ۱۸
- (8) اختلافی مسائل کی دوسری قسم ۲۳
- (9) کیا امت میں اختلاف توسع پر منی ہے؟ ۲۴
- (10) حق ایک ہے اس میں تعدد نہیں ۲۴
- (11) کیا فروعی اختلاف رحمت ہے؟ ۲۹
- (12) ملک میں ایک فتح کا رواج مطلوب شرعی نہیں۔ ۳۳
- (13) ائمہ کے اختلافات اور فرقہ بندی ۳۵
- (14) کیا ائمہ کا اختلاف شرائع متعددہ کی مانند ہے؟ ۳۰
- (15) تتمی اختلاف میں انتہاء پسندی ۳۴
- (16) ایک دوسرے کے پیچے نماز پڑھنے کی ممانعت ۳۶
- (17) مقلدین کی باہمی لڑائی اور حجاز آرائی تتمی اختلافات کے چند اسباب ۴۰
- (18) پہلا سبب ۵۰
- (19) صحیح حدیث کی شروط میں اتصال سند کا اختلاف ۵۱
- (20) حدیث مرسل کے بارے میں اختلاف ۵۱

- (22) ائمہ اربعہ اور حدیث مرسل  
53
- (23) کیا مرسل، مند سے قوی ہے؟  
55
- (24) عدالت راوی کے بارے میں اختلاف  
57
- (25) ضبط راوی میں اختلاف  
58
- (26) کیا امام ابو حنیفہ کے نزدیک حفظ حدیث بیان حدیث تک ضروری ہے  
58
- (27) کیا امام صاحب اس شرط پر قائم رہ سکے  
59
- (28) وہ احادیث جن کے بیان میں امام صاحب سے بھول ہوئی  
40
- (29) خنی اصول  
45
- (30) ضعیف حدیث کا حکم  
47
- (31) کیا ضعیف حدیث بھی ائمہ کے مابین اختلاف کا سبب ہے؟  
48
- (32) سلسلہ الاحادیث الحجیۃ والضعیفہ پر نگواری کی اصل وجہ۔  
48
- (33) اختلاف کا دوسرا سبب: فہم حدیث میں اختلاف  
49
- (34) امام ابو حنیفہ کے تفہیق پر بیان کردہ حکایات پر تبصرہ  
51
- (35) امام ابو حنیفہ اور امام ائمہ کے باہمی مناقشات  
52
- (36) جامع المسانید کی موضوع روایت  
49
- (37) امام ابو حنیفہ امام اوزاعی اور امام ابن مبارک  
81
- (38) عیسیٰ بن ابیان اور امام محمدؐ کی گفتگو  
83
- (39) اختلاف فہم کا دوسرا سبب  
85
- (40) حدیث المتبایعان بالجیمار، امام ابو حنیفہ اور خنی مذهب  
85
- (41) اختلاف کا تیسرا سبب، متعارض احادیث  
91
- (42) متعارض روایات کے بارے میں اختلاف کے ہاں طرز عمل  
92
- (43) علامہ کاشمیریؒ کا تبصرہ  
92
- (44) محدثین کا نقطہ نظر  
93
- (45) ارجحیت صحیحین  
95
- (46) کیا علامہ حازمؒ ارجحیت صحیحین کے قائل نہیں؟  
95

- 98 کیا اسی اصول پر ہی راجح مرجوح کا فصلہ ہوتا ہے؟ (47)
- 99 مدین کی نیتوں پر حملہ (48)
- 100 حدیث کے صحت و ضعف میں ان کے تتمی اثرات کا بے بنیاد دعویٰ (49)
- 101 اس دعویٰ کی حقیقت (50)
- 102 امام ابو حنیفہ کا اصول ترجیح (51)
- 104 خلفاء راشدین سے اختلاف کے چند نمونے (52)
- 111 اختلاف کا چوتھا سبب، حدیث کا علم نہ ہونا (53)
- 112 کسی امام کو حدیث کا علم نہ ہونا، اس میں اس کی توجیہ نہیں (54)
- 113 امام ابو حنیفہ کیش الحدیث تھے؟ (55)
- 114 غزالی، امام اکبریٰ، صاحب بدایہ اور علم حدیث (56)
- 116 "الولد للغراش" الحدیث کیا امام ابو حنیفہ کی مند میں ہے؟ (57)
- 117 جامع المسانید میں یہ موضوع سند سے ہے (58)
- 118 جامع المسانید کی ایک اور موضوع روایت (59)
- 120 کسی امام کی تصانیف میں احادیث نہ ہوں تو کیا کما جائے گا؟ (60)
- 121 چوتھے سبب کو موخر ذکر کرنے کا ایک اور سبب (61)
- 122 مقلدین کا عجیب حال (62)
- 122 پریشان خیالی (63)
- 123 کیا امام احمد ان احادیث سے واقف نہیں تھے؟ (64)
- 123 قبر پر قرآن خوانی (65)

## پیش لفظ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين۔  
 دین اسلام کی اساس دو چیزوں پر ہے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب "قرآن مجید" اور  
 دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن  
 پاک میں متعدد مقامات پر ان دونوں کی اطاعت و تابعداری کا حکم فرمایا اور آنحضرت  
 صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آخری ایام میں ان ہی کے بارے میں فرمایا  
 "ترکت فیکم امریکن لن تضروا ما تمسکتم بهما تاب الله  
 وسنة رسوله" (مشکاة)

میں دو چیزیں تم میں چھوڑ چلا ہوں۔ جب تک ان سے وا بسطہ  
 رہو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہو گے۔ ایک اللہ کی کتاب دوسری  
 اللہ کے رسول کی سنت۔

تمام اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ معصوم صرف رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس لئے دین کے معاملے میں آپؐ کے علاوہ ہر کسی  
 کی بات دلیل کی بنیاد پر روکی جا سکتی ہے۔ امت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ  
 عنہ کے مقام و مرتبہ کو کون پاسکتا ہے۔ وہ بھی فرماتے تھے۔

"اطیعوني ما اطعنت الله فاذاعصیت فلا طاعة لي عديكم  
 "جب تک میں اللہ کا اطاعت گزار رہوں میری بات مانو، جب  
 اللہ کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت نہیں۔"

"حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے خطبه ارشاد  
 فرماتے ہوئے کہا۔"

"ان الله لم يبعث نبياً بعد نبيكم ولم ينزل بعد هذا الكتاب  
 الذي أنزله عليه كتاباً فما أحل الله على لسان نبيه فهو  
 حلال إلى يوم القيمة، وما حرم على لسان نبيه فهو حرام  
 إلى يوم القيمة، إلا واني لست بعاصٍ ولكن منفذ ولست

بمبتدع ولکن متبوع۔“

”بلاشہ اللہ تعالیٰ نے تمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجا اور جو یہ کتاب آپ پر نازل کی اس کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں فرمائی۔ پس جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر حلال قرار دیا ہے وہ قیامت تک حلال ہے اور جسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر حرام ٹھہرا دیا ہے وہ قیامت تک حرام ہے۔ خبردار میں قاضی نہیں بلکہ میں احکام نافذ کرنے والا ہوں۔ میں کسی نئے مسئلہ کو ایجاد کرنے والا نہیں بلکہ قیمع اور اطاعت گزار ہوں۔“ (دارمی ح اص ۱۱۵)

یہی طرز عمل تمام صحابہ کرام، تابعین عظام اور ائمہ مجتهدین کا تھا۔ وہ واشکاف الفاظ میں فرماتے کہ ہمارا قول و عمل اگر کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ کے خلاف پاؤ تو اسے چھوڑ دو۔ مگر اس مسلمہ حقیقت کے باوصف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کے درمیان ہی نہیں ان کے بعد تابعین عظام اور ائمہ مجتهدین کے مابین بھی بہت سے مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ قرآن و سنت جب تمام کا مأخذ اور سب کی مشترکہ میراث ہے تو پھر یہ اختلافات کیوں؟ اسی اشکال کا جواب حافظ ابن حزم نے ”الاحکام“ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ”رفع الملام“ اور حضرت شاہ ولی اللہ نے ”جۃ اللہ البالغة“ میں دیا اور اس بحث کا حق ادا کر دیا۔ ہم یہاں نہایت اختصار سے بعض اسباب کا تذکرہ مناسب سمجھتے ہیں۔

(۱) صحابہ کرام اور تمام ائمہ مجتهدین میں علمی طور پر فرق مراتب ایک مسلمہ حقیقت ہے اس لئے ایک سبب یہ ہے کہ ایک حدیث کا علم بعض کو حاصل ہو اور بعض کو حاصل نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ جن حضرات کو حدیث کا علم نہیں اس پر ان کے عمل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نہ وہ اس پر عمل کرنے کے شرعاً ملکت تھے۔

(۲) حدیث کا علم تو ہو لیکن اس کی صحت انہیں تسلیم نہ ہو۔ یا صحت سند سے وہ روایت ان تک پہنچی ہی نہ ہو۔

(۳) احادیث کی صحت و ضعف کی شروط کے بارے میں ائمہ کے مابین اختلاف بھی

تمی اخلاف کا ایک سبب ہے۔

- (۲) جس کسی امام سے بظاہر کسی حدیث کی مخالفت نظر آئے اس کے بارے میں اس کا بھی امکان ہے کہ وہ حدیث انہیں ملی ہو مگر یاد نہ رہی ہو۔
- (۵) حدیث کی تفہیم و تعبیر میں اختلاف واقع ہوتا۔
- (۶) کبھی یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ زیر نظر حدیث مسئلہ زیر بحث پر دلالت میں واضح نہیں۔ مگر بعض کی رائے اس کے بر عکس ہوتی ہے۔
- (۷) جس حدیث سے استدلال کیا گیا ہے اس کے بر عکس خیال رکھنے والے سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کے خلاف ایسی دلیل موجود ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث سے استدلال اس موضوع پر درست نہیں۔
- (۸) بعض حضرات ایک حدیث کو کسی اور حدیث کے معارض سمجھ لیتے ہیں یا ان کے نزدیک دونوں میں سے ایک ضعیف یا منسوخ یا ماؤل ہوتی ہے۔
- (۹) الفاظ حدیث کے ضبط پر اختلاف بھی باہمی اختلاف کا سبب ہوتا ہے۔
- (۱۰) اپنے شروع بلد کی روایات اور اپنے اپنے شر کے ائمہ و قسماء کی آراء کو راجح سمجھنا۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور حضرت شاہ ولی اللہ نے اختلاف کے ان اسباب و وجہوں سے واضح کیا ہے اور "نہمنا" بعض اصولی اختلافات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ جس سے اس اشکال کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے اور ائمہ مجتهدین کے بارے میں ظاہرین نگاہوں میں پیدا ہونے والے سوءِ ظن کا دفاع بھی ہو جاتا ہے۔


اس موضوع پر حال ہی میں شیخ محمد عوامہ کی تازہ تصنیف منظر عام پر آئی جس کا نام "اثر الحدیث الشریف فی اختلاف الفقہاء" ہے جس کا خلاصہ معروف دیوبندی آرگن ماہنامہ بینات کراچی میں شائع ہوا۔ جس میں ائمہ قسماء کے اختلافات کے حقیقی عوامل بیان کرنے کی بجائے درحقیقت محدثین "کرام" کے اس عام تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہؓ میں حفظ و ضبط کی کمی تھی اور وہ دوسرے ائمہ حدیث سے نسبتاً حدیث کا علم کم جانتے تھے۔ اسی ضمن میں انہوں نے ائمہ حدیث کے بارے میں اپنے روایتی عناد کا مظاہرہ بھی کیا اور اپنے مخصوص نفسی

میلانات کی بناء پر بعض ایسی باتیں بھی کہیں جن کا موضوع سے کوئی جوہری تعلق نہیں۔ ان کی انہی بے اصولیوں کا جائزہ ہمارے ادارہ کے فتن مولانا ارشاد الحق اثری خدا اللہ نے لیا جو "الاعتصام" ایسے موقر ہفت روزہ میں شائع ہوا۔ جسے اہل علم حضرات نے نہایت پسندیدگی کی تگاہ سے دیکھا اور متعدد حضرات نے غیب وہ رسالے کی شکل میں شائع کرنے کا مطالبہ کیا۔

چنانچہ آج ہم مولف کی نظر ثانی اور ضروری حک و اضافہ کے ساتھ اسے شائع کرنے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جو سندگان حق کے لئے مشعل راہ بنائے اور ادارہ اس کے رفقاء کار اور معاونین کی ایسی مسامی جمیلہ کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین۔

محمد اسحاق چیمہ

رئیس ادارہ العلوم الارشیہ فیصل آباد



الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله ، اما بعد :

دین کے بہت سے سائل میں فقیہے کرام رحمہم اللہ کے مابین اختلاف ہے اور ان میں بہت سے ایسے سائل بھی ہیں جو حضرات صحابہ کرام اور تابعین عظام کے دور میں بھی مختلف نیہ رہے ہیں۔ ایک مبتدی اور ظاہر ہیں جب یہ اختلاف دیکھتا ہے تو حیران و شذر رہ جاتا ہے۔ کہ جب قرآن ایک، نبی ایک، قبلہ و کعبہ ایک، تو یہ اختلافات کیوں اور کیسے؟ اسی اعتراض کا جواب شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ”رفع الملام عن ائمۃ الاعلام“ میں علامہ ابن حزم نے ”الاحکام فی اصول الاحکام“ (ج 2 ص 124 تا 134) میں، علامہ ابو محمد عبداللہ بن محمد اندلسی نے ”الانصاف فی اتنیہ علی الاسباب التي او بہت الاختلاف“ میں، علامہ شعرائی نے ”المیران الکبری“ میں، علامہ محمد حیات سندھی نے ”الایقاف علی سبب الاختلاف“ میں، حضرت شاہ ولی اللہ نے ”الانصاف فی بیان سبب الاختلاف“ اور ”بُحْثُ اللہ البالغ“ کی ”الفصل السادس“ میں بڑی تفصیل سے دیا ہے اور بحث کا حق ادا کر دیا۔

جزا هُمُ اللَّهُ عَنَا وَعَنْ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ -

اور اب حال ہی میں اسی موضوع پر دکتور مصطفیٰ سعید کی ”اثر الاختلاف فی القواعد الاصولیہ فی اختلاف الفقیہاء“ اور شیخ محمد عوامہ کی کتاب ”أثرالحدیث الشریف فی اختلاف الأئمۃ الفقیهاء“ شائع ہوئی، اول الذکر تا حال نظر سے نہیں گزری، البتہ شیخ محمد عوامہ کی کتاب دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے جو دار السلام قاهرہ سے شائع ہوئی ہے اور 168 صفحات پر مشتمل ہے۔ کتاب کا نام ہی مصف کے رجحان اور ان کے انداز فکر کا ترجمان ہے۔ غور فرمائیے کہ کتاب کا نام کیا رکھا گیا۔ ”أثرالحدیث الشریف فی اختلاف الأئمۃ الفقیهاء“ کہ ائمۃ فقیہاء کے اختلاف میں حدیث شریف کا اثر، گویا ائمۃ فقیہاء کے مابین اختلاف کا سبب ”حدیث شریف“ ہے۔ (معاذ اللہ)

حالانکہ حدیث تو اختلافات کے حل کا ایک سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

فَإِنْ تَنْهَىْعُمْ فِي شَيْءٍ فَرْدُوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ - (النساء : ۵۹)      ”کہ اگر تمہارے دریان کسی معاملہ میں زیاد ہو جائے تو اسے اللہ اور رسولؐ کی طرف پھیر دو۔“ مفسرین

کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ "إلى الله" سے مراد "قرآن پاک" اور "الرسول" سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔" (ابن کثیر ج 1 ص 518۔ الدر المشور ج 2 ص 178، فتح القدر برج 1 ص 445، ابن جریر ج 5 ص 147 وغیرہ)

حدیث کی صحیح و تغییف اور دیگر بعض قواعد اصولیہ کے مختلف نیز ہونے کے اعتبار سے اگر اختلاف ہے تو یہ "اصولی" اختلاف ہے۔ "حدیث شریف" سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر یہ اختلاف صحیح حدیث کی تغییب و تبییر، منسوخ و محکم، تعارض رواستین، حدیث سے دلالت و عدم دلالت، یا عدم معرفت، و نیان کے باعث ہے تو کیا یہ وجود و اسباب، قرآن پاک سے ماخوذ سائل میں نہیں پائے جاتے؟ آیات احکام کی تغییب، ان کے ضغط و عدم ضغط، دلالت و عدم دلالت کی بناء پر کیا فقماء کے مابین کوئی اختلاف نہیں؟ لہذا جب قرآن پاک سے ماخوذ سائل میں بھی اسی نوعیت کا اختلاف یا جاتا ہے۔ تو کل کوئی اسلام اور قرآن سے بیزار منچلا اگر "أثر القرآن الكريم في اختلاف الأئمة الفقهاء" کے نام سے کتاب لکھ دے تو کیا اس کی اس "جہارت" کو تحسین کی نکاہ سے دیکھا جائے گا؟ اور اسے ایک "تحقیق شاہکار" پاور کر لیا جائے گا؟ (کلام ثم کلام) مگر افسوس کہ اسی کتاب سے استفادہ کر کے مولانا عقیق احمد قاسی صاحب نے ایک مضمون لکھ مارا۔ جو دیوبندی مکتبہ فرقہ کے مشہور ماہنامہ "بینات" کراچی جلد 52 شمارہ نمبر 4-5 ربیع الثانی، جمادی الاولی 1410ھ بمطابق دسمبر 89ء جنوری 90ء میں شائع ہوا۔ اور عنوان اس کا بھی وہی ہے۔ "فقماء کے اختلاف میں علم حدیث کے اثرات۔" إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ مَا أَحْجَعْنَا

ہم آئندہ سطور میں اسی مضمون اور اصل کتاب کے بعض مباحث کا جائزہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ مگر اصل بحث سے قبل مولانا عقیق احمد قاسی صاحب نے جو باتیں بطور تمہید و تقدیمہ رقم فرمائیں ان کا تجزیہ بھی ضروری ہے۔

## ائمه کرام کے اختلاف کا دائرہ

مولانا قاسی لکھتے ہیں۔

ضروریات دین اور شریعت اسلامی کے اساسی حصہ میں ائمہ مجتہدین میں کوئی اختلاف نہیں۔ شریعت کا یہ اساسی حصہ "نفل"

العامۃ عن العامۃ” یا ”نقل الکافہ عن الکافہ“ کی راہ سے ہر نسل تک پہنچتا رہا ہے۔ جسے ہم متواتر سے بھی موسم کرتے ہیں۔ اور شریعت کا جو حصہ خبر الواحد عن الواحد کی راہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ اسی میں ائمہ مجتہدین کے اختلافات ہیں۔ اور یہ اختلافات ائمہ مجتہدین سے شروع نہیں ہوئے، بلکہ صحابہ کرام کے درمیان بھی ان مسائل میں اختلافات تھے ان مسائل میں اختلافات کی نوعیت افضل غیر افضل، راجح مرجوح کی ہے۔ جواز عدم جواز صحت و فساد والے اختلافات دس نی صد بھی نہیں۔“ (بینات ص ۱۷، ۱۸، ۱۹، ج ۵۲ شمارہ

نمبر ۴)

یہاں مولانا قاسی صاحب نے دو باتیں کی ہیں۔

۱۔ شریعت کا اساسی حصہ احادیث متواترہ سے مانوذ ہے اس حصہ میں کوئی اختلاف نہیں۔

۲۔ جو حصہ خبر الواحد پر موقوف ہے، اختلافات اسی حصہ میں ہیں۔ اس تفصیل سے قطع نظر کہ خبر الواحد سے عقیدہ اور فرض ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ اور کیا عقائد کے باب میں اختلافات پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ ہم یہاں یہ تلاٹا چاہتے ہیں کہ ”خبر الواحد“ ہی نہیں بلکہ ”متواتر“ روایات سے ثابت شدہ احکام میں بھی فتنائے کرام کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس لئے مذکورہ تفرقہ مغالطہ انگلیزی ہی نہیں، حقیقت کے بھی بر عکس ہے۔ علاوہ ازیں اس میں ”خبر الواحد“ کے بارے میں اختلاف کے روایتی استخفاف کی بو آتی ہے۔

قاسی صاحب کی اس تفرقہ کو پیش نہ کر سکیں، اور ویکیپیڈیا کے فتحاء کے مابین اختلاف ہے کہ میت کو قبر میں کس طرح سے اتارا جائے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ چار پاؤں کو بجانب قبلہ رکھ کر میت کو اس سے المخارک قبر میں اتارا جائے۔ مگر امام شافعی فرماتے ہیں کہ

(۱) اس بحث کے لیے ملاحظہ فرمائیے ”الحدیث جمہ“ بنفسہ فی العقائد و الاحکام“ مؤلفہ علامہ البانی حفظہ اللہ

میت کو قبر کی پاؤں والی جانب سے انداز کر قبر میں اتارنا چاہئے۔ بلکہ "كتاب الام" میں انہوں نے صراحت کی ہے۔

ہمارے شفہ اصحاب نے مجھے بتلایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر آپ کے گمراہ کے دامیں جانب کی دیوار کے بالکل ساتھ تھی۔ آپ کو بعد میں اتارا گیا تھا۔ دراندازیکہ کہ بعد دیوار کے نیچے تھی۔ ایسی صورت میں بجز اس کے اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ آپ کو پاؤں کی جانب سے اتارا جاتا یا یہ کہ ست قبلہ کی بجائے دوسری جانب رکھ کر بعد میں اتارا جاتا۔ میت کے احکام اور اسے قبر میں اتارنے کے سائل، کثرت امور اور ائمہ دین اور شفہ افراد کی موجودگی میں، ہمارے ہاں مشور و معروف ہیں اور یہ ایسے معروف اور معمول بھا ہیں کہ جن کے لئے حدیث کی ضرورت نہیں بلکہ ان کے لیے حدیث کی تلاش محض تکلف ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مهاجرین و انصار کا عمل "نقل العامة عن العامة" کے طریق سے ہمارے سامنے ہے اور اس میں ان کا کوئی اختلاف نہیں کہ میت کو قبر میں پاؤں کی جانب سے داخل کرنا چاہیے۔

ان کے آخری الفاظ ہیں:-

"وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَنْصَارِ بَيْنَ أَطْهَرِهِنَا بِنَقلِ الْعَامَةِ عَنِ الْعَامَةِ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمِيتَ يُسْلَمُ سَلَامًا."

(كتاب الام، ج ۱، ص 241-242)

اس مسئلہ کی پوری تفصیل سے قطع نظر قابل غور بات یہ ہے کہ امام شافعیؓ اپنی اس اصطلاح کے مطابق ہے قاسی صاحب متواتر قرار دیتے ہیں، اس مسئلہ کو "نقل العامة عن العامة" کے الفاظ سے بیان کر کے بڑے ثبوت سے اس کے تواتر عملی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے بارے میں حدیث کی تبع و تلاش کو تکلف محض قرار دیتے ہیں۔ مگر دیکھا آپ نے کہ اس "توواتر" سے ثابت شدہ مسئلہ کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔

## اسی طرح توضیوحاً مسماً سنت النار، افطر الحاجم والمحجوم، ابرددا بالظهر<sup>(۱)</sup>

(۱) یعنی آگ سے کپی ہوئی چیز کو کھاؤ تو وضو کرو۔ یہ حدیث درج ذیل صحابہ کرام سے مقول ہے۔

(۱) زید بن ثابت (۲) ابو ہریرہ (۳) عائشہ (۴) ابو ابوبالنصاری (۵) ابو علی (۶) انس (۷) سل بن الحنبلیہ (۸) ابو موسی (۹) ام سلمہ (۱۰) ابن عمر (۱۱) عبد اللہ بن زید (۱۲) ابو سعد الخیر (۱۳) معاذ (۱۴) ام حبیبہ (۱۵) عبد اللہ بن الی امامہ (۱۶) حزرة الاسلامی (۱۷) المغیرۃ (۱۸) سلمہ بن سلامہ (۱۹) عکراش (۲۰) رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفصیل کے لیے دیکھئے۔ لقط اللالیء المستاشرة فی الاحادیث المتواترة مؤلفہ امام محمد مرتفع الرزیدی (ص ۱۰۷، ۱۱۱) نظم المستاشرة من الحدیث المتواترة مؤلفہ علامہ ابو الفیض الکتانی ص (۴۷) کشف النقاب عما یقوله الرزیدی فی الباب مؤلفہ الدکتور محمد حبیب اللہ عخار (ج ۲ ص ۱۸۳، ۱۹۱) الازھار المستاشرة للرسولی (ص)

(۲) یعنی تنگی لگانے اور لگوانے والا روزہ افظار کرے۔ یہ حدیث حسب ذیل صحابہ سے مروی ہے۔ (۱) ثؤں (۲) شداد بن اوس (۳) رافع بن خدیج (۴) علی (۵) اسامہ بن زید (۶) بلال (۷) معقل بن یمار (۸) ابو موسی (۹) ابو ہریرہ (۱۰) عائشہ (۱۱) انس (۱۲) جابر بن عبد اللہ (۱۳) سرہ بن جندب (۱۴) ابن عباس (۱۵) ابن عمر (۱۶) ابو زید الانصاری (۱۷) سعد بن الی وقار (۱۸) ابن مسعود رضی اللہ عنہم (۱۹) الحسن البصری مرسلا۔ ملاحظہ ہو نظم المستاشرة ص ۸۷، ۸۸، لقط اللالیء ص ۱۵۲ الازھار المستاشرة وغیرہ

(۳) یعنی گری میں ظہر کی نماز محدثی کر کے پڑھو۔ یہ حدیث حسب ذیل صحابہ کرام سے مروی ہے۔ (۱) ابوذر (۲) ابو ہریرہ (۳) ابن عمر (۴) ابو سعید (۵) ابو موسی (۶) منیرہ بن شعبہ (۷) عائشہ (۸) صفوان (۹) عبد الرحمن بن جاریہ (۱۰) عمرو بن عبد (۱۱) عمر (۱۲) ابن عباس (۱۳) عبد الرحمن بن ملتک (۱۴) انس (۱۵) رجل لم سُمِّ اراه عبد اللہ (۱۶) ابن مسعود (۱۷) جابر بن عبد اللہ (۱۸) مرسل عطار بن یمار (۱۹) حاج الجبلی ولہ سمعت رضی اللہ عنہم دیکھئے نظم المستاشرة ص ۵۶۔ لقط اللالیء ص ۱۶۲۔ الازھار المستاشرة ص۔ الدکتور حبیب اللہ عخار اللہ نے مزید دس صحابہ و تابعین سے بھی اسے نقل کیا ہے۔ کشف النقاب ص ۲۷۷، ۲۸۴ ج ۳

أَسْفَرْ وَبِالْفَجْرِ، لِاَصْلَاهِ الْابْغَا تَحْتَهُ الْكَابُ<sup>(۱)</sup>، مِنْ مَسْ ذِكْرِهِ فَلِيَوْضُأُ، دَفْعَ الْيَدِينَ عَنْدَ الرُّكُوعِ<sup>(۲)</sup>

(۱) یعنی صبح کی نماز سفیدی میں پڑھو۔ یہ حدیث حسب ذیل صحابہ سے مروی ہے۔ (۱) ابو  
برزہ (۲) جابر بن عبد اللہ (۳) بلال (۴) رافع بن خدق (۵) ابن عمر (۶) محمود بن لمید (۷)  
رجال من الانصار (۸) ابو طریف (۹) رجال من الانصار (۱۰) ثارۃ بن انتuman (۱۱) ابن  
مسعود (۱۲) ابو ہریرہ (۱۳) حواء الانصاریہ (۱۴) ابو بکر الصدیق (۱۵) انس رضی اللہ عنہم (لعلم)  
المتأثرہ ص ۵۵ کشف النقاب ص ۲۵۴ ۲۶۱ ج ۳

(۲) فاتح کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ حدیث درج ذیل صحابہ سے مروی ہے۔ (۱) عبادہ بن  
الصامت (۲) ابو ہریرہ (۳) عائشہ (۴) انس (۵) ابو ثارۃ (۶) ابن عمر (۷) علی (۸) ابو امامہ (۹)  
ابو سعید (۱۰) عمران بن حصین (۱۱) ابن عمر (۱۲) رفاقتہ بن رافع (۱۳) ابن مسعود رضی اللہ  
عنہم۔ لعلم المتأثرہ ص ۶۲ الدکتور حبیب اللہ حفظ اللہ نے مزید صحابہ سے بھی اسے نقل کیا  
ہے۔ کشف النقاب ج ۴ ص ۳۲۰ وغیرہ۔ مسئلہ فاتح خلف الامام کے لیے دیکھئے تحقیق  
الکلام، محدث مبارکپوری، خیر الکلام محدث گوندلوی، توضیح الکلام، ارشاد الحق اثری، وغیرہ

(۳) جس نے اپنی شرم گاہ کو چھوادہ وضو کرے۔ یہ حدیث حسب ذیل صحابہ کرام سے مروی  
ہے۔ (۱) ابو ہریرہ (۲) ابو ایوب (۳) ام جیبہ (۴) اروی ابیت نلیس (۵) عائشہ (۶) جابر بن  
عبد اللہ (۷) زید بن خالد (۸) عبد اللہ بن عمر (۹) بسرة بنت صفوان (۱۰) ابن عمر (۱۱) رجال  
من الانصار (۱۲) ملن بن علی (۱۳) سعد بن ابی وقاص (۱۴) ام سلمہ (۱۵) ابن عباس (۱۶)  
النعمان بن بشیر (۱۷) انس (۱۸) ابی بن کعب (۱۹) معاویہ بن حیدہ (۲۰) تیغہ رضی اللہ عنہم  
وغیرہم۔ دیکھئے لعلم المتأثرہ ص ۴۶، لقطۃ اللائلی ص ۱۹۹، الاذھار المتأثرہ ص، کشف  
النقاب ج ۲ وغیرہ

(۴) رکوع کو جاتے اور اٹھے وقت رفع الیدين کرنا = یہ روایت درج ذیل صحابہ سے مروی  
ہے۔ (۱) عبد اللہ بن عمر (۲) علی (۳) واکل بن حجر (۴) عمر (۵) مالک بن الحوریث (۶) انس  
(۷) ابو ہریرہ (۸) ابو حمید (۹) ابو اسید (۱۰) سلیمان بن سعد (۱۱) محمد بن مسلمہ (۱۲) ابو موسی

والرفع منه، الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، العنسيل يوم الجمعة، وغيره احاديث جنبيں  
ائمه فن نے متواتر قرار دیا ہے۔ کیا ان سے متعلقہ مسائل میں فقماء کے مابین اختلاف  
نہیں؟ جمعہ کے روز عسل کے بارے میں حافظ ابن قیم<sup>ؒ</sup> کے الفاظ ہیں:-

وهو أمر مؤكّد جداً وجوبه أقوى من وجوب الورق، و  
حاشية صفوحة كذشة

الاشعري (13) جابر بن عبد الله (14) عمير اللثي (15) ابن عباس (16) الاعرابي (17) ابو يكر  
الصديق (18) البراء بن عازب (19) معاذ بن جبل (20) مرسل عن سليمان بن يسار (21)  
مرسل عن قتادة (22) مرسل عن الحسن (23) عقبة بن عامر (24) عبد الله بن زبير (25) الحنم  
بن عمير وغيرهم۔ نظم المتاثرة ص 58 لقطع الالآلی ۲۰۷، الاذخار المتاثرة 26، كشف  
النقاب ج ۴، ۳۸۶، جلاء العينين في تجزيع روایات البخاری في جزء رفع اليدين ص 25

لأستاذ السيد بدیع الدین الرادی خدیجہ اللہ

حاشیۃ صفوحة کذشہ

(۱) در میانی نماز عصر کی نماز ہے۔ یہ حدیث حسب ذیل صحابہ سے مروی ہے۔ (۱) علی (۲)  
عبدالله بن مسعود (۳) عائشہ (۴) حفظ (۵) ابن عباس (۶) ابو هاشم بن جبۃ (۷) ابو ہریرہ (۸)  
سرہ بن جنڈب (۹) ام سلمہ (۱۰) ابن عمر (۱۱) ابو مالک الاشعري (۱۲) جابر (۱۳) حذیفہ (۱۴)  
ابو نصرۃ الانصاری (۱۵) براء بن عازب (۱۶) صالحی لم یسم (۱۷) زید بن ثابت (۱۸) اسامہ بن  
زید (۱۹) مرسل عن الحسن (۲۰) حذیفہ۔ دیکھئے نظم المتاثرة ص 52 کشف النقاب جلد 3  
ص 398

(۲) یعنی جمعہ کے روز عسل کرو۔ یہ حدیث درج ذیل صحابہ کرام سے مروی ہے۔ (۱) ابن  
عمر (۲) ابن عباس (۳) ابو ایوب (۴) عبد الله بن زبیر (۵) بریدہ (۶) عائشہ (۷) عمر (۸) حفظ  
(۹) عبید بن الساق مرسل (۱۰) انس (۱۱) عثمان (۱۲) اوس بن اوس (۱۳) ابو سعید (۱۴) ابو  
الدرداء (۱۵) نیشنہ المحنی (۱۶) ثوبان (۱۷) ابن مسعود (۱۸) ابو ہریرہ (۱۹) جابر (۲۰) سل بن  
حیف (۲۱) ابو الماس (۲۲) ابو یکبر الصدیق (۲۳) عمران بن حصین (۲۴) ابو قتادة (۲۵)  
عبد الرحمن بن سرہ (۲۶) علی رضی اللہ عنہم۔ نظم المتاثرة ص 75 لقطع الالآلی ۱۹۳،  
الاذخار المتاثرة ص 74 وغیرہ

قراءة البسمة في الصلاة ووجوب الوضوء من مس النساء ووجوب الوضوء من مس الذكر ووجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة ووجوب الوضوء من الرعاف والمحاجمة والقفر ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير

وجوب القراءة على المأمور (زاد العاد، ج ١ ص ١٠٠)

کہ یہ برا تائیدی حکم ہے اس کا وجوب۔ وجوب وتر۔ نماز میں بسم اللہ کے وجوب، عورت کے چھوٹے سے وضو کے وجوب، مس ذکر سے وضو کے وجوب، نماز میں تقدس سے وضو کے وجوب، نکیر حجامہ اور قرنی سے وضو کے وجوب، آخری تشدید میں درود شریف کے وجوب اور مقتدی پر قرات فاتحہ کے وجوب سے بھی زیادہ قوی ہے۔

"

اہل علم جانتے ہیں کہ حافظ ابن قیم نے نہایہ اربعہ پر کیسے تعریض کی ہے مگر کے معلوم نہیں کہ فقیاء کے مابین یہ مسئلہ بھی مختلف فیہ ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ "اختلاف اس حصہ میں ہے جو "خبر الواحد عن الواحد" کی راہ سے ہی ہم تک پہنچتا ہے۔" یکسر خلاف واقعہ ہے۔

## اختلافی مسائل کی نوعیت

مولانا قاسمی رقطراز ہیں۔

”اختلاف کی نوعیت زیادہ تر افضل، غیر افضل، راجح مرجوح کی ہے۔ جو از و عدم جواز کا اختلاف شاذ و نادر ہے۔ اس طرح کے اختلافی مسائل میں زیادہ تر صورت حال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کے عمل ثابت ہیں۔ اس لئے فقہاء دونوں کو جائز کہتے ہیں۔“ (بینات ص ۱۹، شمارہ نمبر ۴ ج ۵۲)

بلashہ وہ مسائل جن میں اختلاف شرع ہے مثلاً ادعیہ استفاح، دعائے تشہد، عدد کلمات اذان و سعیہ، بسم اللہ جرا یا آہستہ، رکعات و تر وغیرہ جیسے مسائل میں جس پر عمل کیا جائے جائز ہے۔ ول جس پر مطمئن ہو اور دلائل کی بنا پر جسے راجح سمجھا جائے، اس پر عمل کر لیا جائے۔ فقہائے کرام کا یہی طرز عمل رہا ہے۔

## مقلدین کی تجھ نظری

تمریمان یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ عموماً مقلدین حضرات کا طرز عمل انہے فقہاء سے مختلف ہے۔ یہ حضرات ان مسائل میں بھی اس قدر جو دکار ہیں کہ دوسرے موقف کو صحیح تسلیم کرتے ہوئے اس پر کسی صورت عمل کرنے کی اجازت ملک سے خروج کے مترادف سمجھتے ہیں۔ اور کوئی صاحب بصیرت ان تقلیدی حد بندیوں سے آزاد ہو کر دوسرے موقف کو اختیار رہتا ہے تو معاذ اللہ اس کا عرصہ حیات تجھ کر دینے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا۔ شیخ ابوالحسن ”سنہ می“، شیخ ابو بکر ”الغمری“، علامہ اسماعیل ”یمانی“ کے ساتھ جو دو پرستوں نے جو کچھ کیا اس کی داستان طویل بھی ہے اور دلدوز بھی (۱) ہمارے یہاں بر صیر میں بھی

(۱) جس کی ضروری تفصیل ہمارے رسالہ ”تاریکین رفع الیدين کی نئی کاؤنٹ اور اس کا علمی جائزہ“ مطبوعہ دار الدعوة السلفیہ میں دیکھی جاسکتی ہے۔

جب تقلید و جمود کے مقابلے میں عمل بالحیث کی صدا بلند ہوئی تو اس کے خلاف مقلدین حضرات کے ترکش کا کونا تیر ہے جو آزمایا نہیں گیا۔ اور کونا الزام ہے جو لگایا نہیں گیا ایک رکعت و تر کے بارے میں فقماء کے مابین اختلاف مشور ہے۔ امام ابو ضیفہ اور ان کے متبیعین اس کے قائل نہیں۔ اسی بنا پر ”الأنوار الساطعة“ کے بدعتی مصنف نے اس پر اعتراض کیا تو اس کے جواب میں مولانا خلیل احمد سارپوری نے لکھا۔

”وتر کی ایک رکعت احادیث صحاح میں موجود اور عبد اللہ بن عمرؓ اور عبد اللہ بن عباسؓ وغیرہما صحابہؓ اس کے مقرر اور مالک و شافعی و احمدؓ کا وہ مذہب پھر اس پر طعن کرنا۔ ان سب پر طعن ہے کہو اب ایمان کا ٹھکانہ جب آنکھ بند کر کے ائمہ مجتہدین پر اور صحابہؓ اور احادیث پر تشقیع کی۔ پس یہ تحریر بجو جمل کے اور کیا وجہ رکھتی ہے۔“ (البراہین القاطعہ ص ۷)

مگر اس اعتراف کے باوجود کیا کوئی خنی عالم ایک و تر کے جواز کا قائل ہے؟ اور کوئی بھی خنی مقلد ایک و تر پڑھتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ اور جو حضرات تین کے ساتھ ایک و تر بھی پڑھتے ہیں ان کے بارے میں حضرت موصوف یوں گوہر افشا نی فرماتے ہیں۔

”بعض صحابہؓ و ائمہ مجتہدین کے نزدیک و تر کی ایک رکعت ہے۔ سو اس قول پر طعن کرنا ان کی حضرات پر طعن کرنا ہے۔ ہاں اگر غیر مقلدین پر اتباع ہوائے نفسانی کا طعن کرتے تو ممکن تھا نہ کہ اس طرز سے جیسے کیا ہے۔“ (حاشیہ البراہین ص ۷)

غور فرمایا آپ نے کہ ایک و تر کے بارے میں یہ تلیم کرنے کے باوجود کہ بعض صحابہؓ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمدؓ کا یہ مذہب ہے اور ”احادیث صحاح“ سے ہے مگر ”غیر مقلد“ جو ایک رکعت پڑھتے ہیں۔ وہ ”اتباع ہوائے نفسانی“ کی بناء پر پڑھتے ہیں۔ مالکی، شافعی، حنبلی ایک و تر پڑھے تو درست اور ”احادیث صحاح“ کے مطابق لیکن ”غیر مقلد“ پڑھ لے تو ”اتباع ہوائے نفسانی“ کا مرکب ثمر ہے۔ آخر ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں کہ حضرت: ”هل شفقت قلوبهم“ کیا آپ نے ان کے دلوں کو نیول کر دیکھ لیا ہے کہ وہ یہ عمل ”احادیث صحاح“ کی بنا پر کرتے ہیں یا ”ہوائے

نفسانی" کی بناع پر؟

قاضی ابو یوسف" کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ جمعہ کی نماز ایسے پانی سے غسل کر کے پڑھائی جس کے بارے میں انہیں اس کے بعد مطاع کیا گیا کہ جس کنویں کے پانی سے آپ نے غسل کیا ہے اس میں چوہا مرا ہوا تھا تو انہوں نے فرمایا "نأخذ بقول اخواننا في اهل المدينة اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" کہ ہم اپنے مدینہ والے بھائیوں کے قول پر عمل کرتے ہیں کہ جب پانی دو قلے ہو تو پلید نہیں ہوتا۔ (اب رازیہ بحوالہ روا الحمار ص ۵۷ ج ۱)

فرمائیے قاضی ابو یوسف" نے اپنے مسلم کے بر عکس ماکیہ کے قول پر جو عمل کیا، اس کا سبب کیا تھا؟ ہم تو یہ جسارت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے "اتباع ہوائے نفسانی" کی بنا پر ایسا کیا۔ جو توجیہ علمائے احتجاف اس واقعہ کے بارے میں کریں کم از کم وتر کے بارے میں الہدیث حضرات کے عمل کی بھی وہی توجیہ کر لی جائے تو آخر اسکیں حرج کیا ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کر لینے کے باوجود کہ "لوصلی یوما علی مذہب دام اداد ان بصلی یوما الخ علی غیرہ فلا یمنع منه"؟ اگر کوئی کسی دن ایک مذہب کے مطابق نماز پڑھے اور دوسرے روز کسی اور مذہب کے مطابق تو اسے منع نہیں کیا جائے گا (روا الحمار ص ۳۷ ج ۱) کما جاتا ہے کہ الہدیث ایک رکعت و تراۃت ہوائے نفسانی کی بنا پر پڑھتے ہیں احادیث صحاح" کی بنا پر تو یہ عمل "ہوائے نفسانی" قرار پائے (معاذ اللہ) لیکن دوسرے امام کی تقلید میں کوئی عمل کیا جائے تو درست اور عین شریعت کے مطابق کہا جائے فوا اسفا۔

اب آپ ہی فیصلہ فرمائیں کہ فقہاء کے اس اختلاف کو خنفی مقلدین نے کس حد تک قبول کیا ہے؟ فقه کی ایک کتاب خلاصہ کیدانی میں یہ فقہی روایت مل گئی کہ "تشدید میں اہل حدیث کی طرح شادت کی انگلی اخانا حرام ہے۔" بس پھر بعض جامدین ہنے بلا تحقیق اس پر اس حد تک سختی سے عمل کیا کہ جس کسی کی انگلی انہوں گئی اس کی انگلی تراش دی جاتی۔

فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ بھی مشور اخلاقی مسئللوں میں سے ایک ہے اس کے بارے میں جو فتوے دانے گئے۔ اس کی تفصیل ہماری کتاب توضیح الكلام حصہ اول میں دیکھی جا

لکھتی ہے۔ علامہ رشید رضا مصری نے عجیب واقعہ لکھا ہے کہ:

”وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ بَعْضَ الْحَنَفِيَّةِ مِنَ الْأَفْغَانِيِّينَ سَمِعَ رِجْلَيْقَرَا<sup>١</sup>

الْفَاتِحَةَ وَهُوَ بِجَانِبِهِ فِي الصَّفَ فَضَرِبَ بِمَجْمُوعِ يَدِهِ عَلَى صَدْرِهِ فَزَرَبَهُ

وَقَعَ بِهَا عَلَى طَهْرَةِ فَكَادَ يَمُوتُ وَبَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ كَسَرَ سِبَابَةَ

مَصْلِلِ لِرْفَعَهِ إِيَّاهُ فِي التَّشْهِيدِ“ (مقدمة المغني ص 12، 13)

یعنی ”ان کی سختیوں کی داستانوں میں ایک واقعہ یہ ہے جو بعض حنفی افغانیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے جماعت میں اپنے برابر والے سے سنا کہ وہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو اس افغانی نے فاتحہ پڑھنے والے کے سینے پر اس زور سے دو ہٹڑ مارا کہ وہ پینچھے کے مل زمین پر گر پڑا اور قریب تھا کہ مر جاتا۔ اور یہ خبر بھی ملی ہے کہ ایسے ہی ایک شخص نے تشدید کی انگلی نماز میں اٹھائی تو اس کی انگلی توڑ دی گئی۔“

اسی طرح نماز میں رفع الیدين کا مسئلہ بھی اخلاقی مسائل میں ہے۔ علامہ کاشمیری نے بھی اسے عملًا اور سندًا متواتر تسلیم کیا ہے۔ (نیل الفرقان 22) اسی موضوع پر حضرت سید محمد اسماعیل شہید کا رسالہ ”تُوْرِي الْعَيْنَ فِي اثْبَاتِ رَفْعِ الْيَدِينِ“ معروف ہے۔ انہوں نے یہ رسالہ لکھنے کی ضرورت کیوں محسوس کی۔  
”ولَاتَا عَاشِقُ النَّبِيِّ دِيوبَندِي لَكَحَتَهُ ہیں۔“

”اصل بات یہ ہے کہ بعض حنفیہ نے اہل حدیث یعنی غیر مقلدین زمانہ کو رفع یہیں پر کافر کہنا شروع کر دیا تھا۔ اصلاح احوال کے لیے شاہ صاحب نے علمی طور پر رسالہ لکھا۔“ (حاشیہ تذكرة التخلیل ص 133 طبع کراچی)

”شیخ ابو حفص“ کبیر علمائے احتاف میں بڑے مشور اور مستند بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے زمانہ میں ایک شخص مذہب حنفی کو چھوڑ کر امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے لگا اور رفع یہیں کرنے لگا۔ ”شیخ ابو حفص“ کو اس کی خبر ہوئی تو سخت غصب ناک ہوئے اور اس کے بارے

میں سخت و سست کرنے لگے اور بادشاہ سے جا کر کہا۔ بادشاہ نے جلاود کو حکم دیا کہ بر سر بازار اس کے درے لگائے جائیں آخر کار کچھ لوگ (رحم کھاک) شیخ موصوف کے پاس آئے اور اس کے بارے میں سی سفارش کی اور اس کو لا کر ان کے حضور میں حاضر کیا۔ اس نے توبہ کی تو اس سے عمد و بیان لے کر چھوڑا تب اس کی جان بچی (فتاویٰ حمادیہ و تاتار خانیہ بحوالہ حاشیہ سیرت بخاری ص ۱۱۴)

جہاد افغانستان کے سلسلے میں مجاہدین نے ایسے کارہائے نمایاں سرانجام دیئے۔ جس پر بجا طور پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ اسی جہاد کا نتیجہ ہے کہ آج روس جیسی پر طاقت خود کلڑے کلڑے ہو چکی ہے اور اس کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا ہے۔ مگر افسوس کہ اس دوران تقلید و جمود کے حامیوں نے اپنی روشن کونہ بدلا۔ صوبہ کنڑ میں جو حالات پیدا کئے گئے اس کی کسی صورت تحسین نہیں کی جا سکتی۔ اسی نوعت کا ایک دلدوز واقعہ مزید پڑھیئے۔ جناب مولانا پروفیسر ظفر اقبال صاحب اپنی چشم دید روئیاد میں لکھتے ہیں کہ ”میری وہاں عبدالطاہر سے ملاقات ہوئی۔ وہ دس سالہ جہاد کے واقعات سنانے لگے۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ یہ بھی سنایا کہ عرب مجاہدین کیتر تعداد میں افغان جہاد میں بر سر پیکار تھے ایک عرب مجاہد ابو محمد دہائی حزب اسلامی کے دستے میں نظر کی نماز کے دوران رفع الیدين سے نماز پڑھنے لگا اس دوران ایک شخص سخان یار جو کہ حزب اسلامی کا سپاہی تھا اس نے ابو محمد کو کلاشنکوف کی تین گولیوں سے شہید کر دیا۔ اور خود بھاگ گیا۔ میں نے اس کی خبر اپنے کمانڈر کو دی اس نے کہا یہ جاہلوں کا عمل ہے۔ اس طرز عمل پر میں بڑا رنجیدہ ہوا اور اپنے پندرہ ساتھیوں سمیت ان سے الگ ہو گیا۔ میں نے اس کی خبر حزب اسلامی کے سربراہ حکمت یار کو دی تو اس نے کہا رفع الیدين کا یہ عمل تو تمیک ہے مگر یہ مکان کے اندر کرنا چاہیے باہر نہیں۔“  
(محلہ الد عودۃ ستمبر ۱۹۹۱ء)

بتائیں کیا اس اختلاف کو برداشت کیا گیا؟ اور ائمہ فقہاء کا یہی طرز عمل تھا جس کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔

اختلافی مسائل کی دوسری قسم تقاضہ کی ہے جن میں جواز عدم جواز صحیح و غلط کی سی نوعیت ہے۔ مثلاً عورت کو چھونے سے وضو کا ثبوت جاتا۔ مس ذکر سے وضو کا ثوثنا۔ خون نکلنے اور اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کا ثوثنا۔ مسح عمامہ اور نماز میں سورہ فاتحہ وغیرہ

چیزے سائل۔ ان میں ہمارا موقف یہ ہے کہ دلائل کی روشنی میں تحقیق کی جائے جو صحیح ہو اسے قبول کیا جائے اور جو غیر صحیح ہو اسے بلا تردی چھوڑ دیا جائے۔ بلاشبہ ان سائل میں صحابہ کرامؐ سے لے کر ائمہ مجتہدین کے مابین اختلاف چلا آتا ہے۔ مگر ہم دونوں فرقے کو عند اللہ اختلافِ اجتہاد کی بناء پر مجبورِ سمجھتے ہیں، دونوں کو مصیب قرار نہیں دیتے۔ حق یہی شے ایک ہوتا ہے اس میں تعدد نہیں ہوتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے۔

**”إِذَا حَكِمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدْ فَأَصْبَابُ فَلَهُ أَجْرٌ وَإِذَا حَكِمَ**

فَاجْتَهَدْ شَرْأَخْطَافَ فَلَدَ أَجْرٌ“ کہ جب حاکم اجتہاد سے فیصلہ کر لے اور

وہ فیصلہ واقع میں درست ہو تو اس کے لیے دو ہراثاً ثواب ہے اور اگر

اس میں خطا ہوئی تو اسے اکرا ثواب ملے گا۔” (بخاری، ج 2 ص

1092 و مسلم، ج 2 ص 76)

یہی جمہور اور ائمہ اربعہ کا مسلک ہے مگر بعض حضرات اس اختلاف کو بھی توسع پر محدود کرتے ہیں۔ مولانا قاسمی لکھتے ہیں:-

صحابہ کرامؐ کے ان اختلافات کے بارے میں مشورہ ماکی عالم شاطبی ”الموافقات“ میں حضرت قاسمؓ بن محمد بن ابی بکر کا کتنا بلیغ اور حکیمانہ قول نقل کرتے ہیں۔ کہ ”اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرامؐ کے اہمال میں اختلاف سے امت مسلمہ کو فائدہ پہنچایا عمل کرنے والا ان میں سے کسی کے عمل کے مطابق عمل کرتا ہے تو اپنے لیے کنجائش محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھ سے بہتر تخفیت نے یہ عمل لیا تھا۔“ (بیانات ص 19-20) ”الموافقات“ ج 4 ص 125

حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کے بارے میں بلاشبہ حضرت قاسمؓ بن محمد بن ابی بکر اور حضرت عمرؓ بن عبد العزیز وغیرہ کی یہی رائے تھی مگر علامہ ابن عبد البر“ لکھتے ہیں۔

**”هذا مذهب ضعيف عند جماعة من أهل العلم وقد رفضه**

**أكثـر الفقهاء وأهل النظر۔“**

”کہ اہل علم کی ایک جماعت کے نزدیک یہ مذهب ضعیف

ہے۔ اکثر فقہاء اور اہل نظر نے اسے چھوڑ دیا ہے۔" (جامع بیان

العلم، ج 2 ص 78)

امام مالک، امام شافعی، امام یثیث بن سعد، امام او زاعی، امام ابو ثور وغیرہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اختلاف میں خطاو صواب کا اختہال ہے۔ اختلاف کی صورت میں کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع، یا قیاس صحیح کی روشنی میں ان اقوال کا جائزہ لیا جائے گا۔ حق ایک ہوتا ہے۔ دونوں مختلف اقوال صحیح اور درست نہیں ہو سکتے۔ حافظ ابن عبد البر نے جامع بیان العلم (ج 2 ص 80 تا 91) میں اس مسئلہ پر "تفصیلاً" بڑی نقیض بحث کی ہے اور لکھا ہے کہ:-

"دلو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف

بعضهم بعضا في اجتہادهم وقضائهم والنظر يأبی أن يكون

الشئي وضدلا صوابا كله (جامع ج 2 ص 88)

"یعنی اگر دونوں مختلف صورتیں درست ہوتیں تو سلف ایک دوسرے کے اجتہادی فیصلوں کے بارے میں خطاؤ کا حکم نہ لگاتے اور عقل و فکر بھی اس بات کا انکار کرتی ہے کہ ایک شے اور اس کی ضد دونوں درست ہوں۔"

اس کے بعد انہوں نے صحابہ کرام کے ان فیصلوں کا تذکرہ کیا ہے جن میں انہوں نے وضوح دلیل کے بعد رجوع کر لیا تھا۔

اسی طرح علامہ شاطبی نے بھی المواقفات میں اس مسئلہ پر بحث کی ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں۔ یہ تو اختلافات کو رفع کرنے کے لیے حکم اور قول فصیل ہے اور جو حضرات شریعت میں اختلاف کے قائل ہیں۔ ان کے دلائل کے ضمن میں انہوں نے حضرت قاسم بن محمد کا بھی قول ذکر کیا ہے جسے قاسی صاحب نے بینات میں تقلیل کیا ہے مگر آگے جل کر خود انہوں نے ان دلائل کا جائزہ لیا ہے اور ہر ایک کا اصولی جواب دیا ہے۔ چنانچہ پہلے انہوں نے اس مسئلے کی معروف حدیث "اصحابی کا النجوم بآیہم اقتداء تم اهتدیتم" کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں تم جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔" سے استدلال پر نقد کیا ہے اور اسے ضعیف قرار دیا

ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اختلاف باعث رحمت و دست ہے، یہ درست نہیں، ابن وہبؓ نے امام مالکؓ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا صحابہ کرام کے اختلاف میں توسعہ نہیں حق ایک ہوتا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں۔

”وَأَمَا قَوْلُ مِنْ قَالَ أَنَّ الْخِلَاجَهُ فِيمَنْ وَسْعَةً فَقَدْ رَدَّهُ أَبْنَى  
وَهُبَّ عَنْ ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ لِيْسَ فِي الْخِلَاجَهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْةٌ وَإِنَّمَا الْحَقُّ فِي وَاحِدٍ“

پھر اس کی تائید میں چند سطور بعد قاضی اسماعیلؓ سے نقل کرتے ہیں کہ:

إِنَّمَا التَّوْسِعَةُ فِي الْخِلَاجَهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ تَوْسِعَةً فِي اجْتِهَادِ الرَّأْيِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ تَوْسِعَةً أَنْ يَقُولَ  
الْإِنْسَانُ بِقَوْلٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ عِنْدَهُ فِيهِ فَلَا،  
وَلَكِنْ الْخِلَاجَهُ فِيمَنْ يَدْلِيلٌ عَلَى إِنْهَى اجْتِهَادٍ وَإِنْ تَلَفُوا قَالَ أَبْنَى عَبْدَ الْبَرِّ  
كَلَامُ إِسْمَاعِيلَ هَذَا أَحْسَنُ جَدًا“ (المواقفات، ج 4 ص 129)

یعنی ”صحابہ کرامؓ کے اختلافات میں توسعہ اجتہادی ہے۔ اس اعتبار سے توسعہ نہیں کہ ان میں سے کسی ایک کے قول کو بھی یہ سمجھ کر اختیار کر لیا جائے کہ ہر ہر صحابی کا قول حق ہے دراصل یہ کہ وہ حق نہ ہو، بلکہ ان کے آپس کے اختلافات اس پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کا یہ اختلاف اجتہاد کی بناء پر تھا۔ ابن عبد البرؓ نے کہا ہے کہ اسماعیلؓ کا قول بہتر ہے۔“

علامہ شاطبیؒ نے حافظ ابن عبد البرؓ کی جو تائید ذکر کی ہے اس کی تفصیل جامع بیان العلم ج 2 ص 82 میں دیکھی جاسکتی ہے۔ ہمارے نزدیک بھی یہی موقف درست ہے اگر صحابہ کرام کے اختلافات میں توسعہ کا یہی مفہوم ہے کہ جس صحابی کی بھی اقتدا کر لی جائے درست ہے تو پھر کہنا چاہئے کہ برف کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیونکہ حضرت ابو علیؓ اس بات کے قائل تھے۔ (مسند احمد، ج 3 ص 279، الاحکام، ج 6 ص 83) رکوع میں ہاتھ گھٹنؤں کی بھاگی دوںوں گھٹنؤں کے درمیان رکھنے درست ہیں کہ حضرت عبداللہؓ اس کے قائل تھے۔ (صحیح مسلم، ص 1 ص 202 وغیرہ) شراب کی خرید و فروخت بھی جائز ہے کیونکہ

حضرت سرہ بن جنبد اس کے قائل تھے۔ (مسلم ج 2 ص 22 عبدالرازاق ج 8 ص 195،  
السن الکبری ج 6 ص 12) وغیرہ

اسی قسم کے متعدد شاذ مسائل ایسے ہیں جنہیں امت نے قول نہیں کیا۔ صحابہ کرام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود میں بھی سائلین کے سوال کا جواب دیتے یا کوئی عمل کرتے، اگر وہ جواب یا عمل درست ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصویب فرماتے یا خاموش رہتے اور کوئی انکار نہ فرماتے۔ لیکن اگر وہ درست نہ ہوتا تو اس کی تردید فرماتے۔ حضرت سیعہ<sup>ؑ</sup> اسلامیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جنۃ الوداع کے موقعہ پر حالت حمل میں ان کے خاوند حضرت سعد<sup>ؓ</sup> کا انتقال ہو گیا۔ وفات کے چند روز بعد حضرت سیعہ<sup>ؑ</sup> کے ہاں پچھہ پیدا ہوا۔ نفاس سے فراغت کے بعد لباس بدلا تو حضرت ابوالسالم<sup>ؑ</sup> نے کام تمارا خیال نکاح کا ہو گا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم تو چار ماہ دس دن کی عدت تک نکاح نہیں کر سکتی۔ حضرت سیعہ<sup>ؑ</sup> کا بیان ہے کہ میں نے اس سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا تو آپ نے فرمایا پچھہ کی پیدائش کے بعد عدت ختم ہو گئی۔ تم نکاح کر سکتی ہو۔ (بغاری ج 2 ص 802 مسلم ج 1 ص 486)

مگر اس کے باوجود آپ حیران ہوں گے کہ حضرت علیؑ اور حضرت عبداللہ بن عباس<sup>ؓ</sup> کا فتوی وہی ہے جو حضرت ابوالسالم<sup>ؑ</sup> نے دیا تھا اور جس کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرمائی تھی۔ ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیر ج 4 ص 381

شیخ الاسلام ابن تیمیہ<sup>ؒ</sup> نے لکھا ہے۔ ”ولعریکن بلغہما قصہ سبیعۃ“ کہ حضرت علیؑ اور حضرت ابن عباس<sup>ؓ</sup> کو سیعہ<sup>ؑ</sup> کے واقعہ کا علم نہیں ہو سکا۔ تبھی اس کے خلاف اور ابوالسالم<sup>ؑ</sup> کے موافق فتوے دیا۔ مزید تفصیل کے لیے منہاج النست (ج 3 ص 136-156) ملاحظہ فرمائیں۔ قصہ یہ ہے کہ جب صحابہ کرام<sup>ؓ</sup> کے فتوے میں خطاوں صواب کا اختصار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تھا تو آپ<sup>ؐ</sup> کے بعد کیا اس کا امکان ختم ہو گیا تھا؟ کہ اب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ جو جس صحابی کی اقتدا کرے گا وہ حق پر ہو گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود<sup>ؓ</sup> کا فرمان کس قدر صاف اور واضح ہے۔

”فَإِنْ كَانَ حَقَّاً مِنْ أَنَّ اللَّهَ وَإِنْ كَانَ بِأَطْلَافٍ مِنْ دُولَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ“

بریئان“ کہ ”اگر میرا قول حق ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے“

اور اگر یہ باطل ہے تو یہ میری جانب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں۔“

(ابو داؤد ج 2 ص 202، الاحکام ج 6 ص 86 جامع بیان العلم، ج 2 ص 84 وغیرہ)

علامہ ابن عبد البرؓ نے جامع بیان العلم میں صحابہ کرامؓ اور تابعین عظام کے مابین متعدد مختلف فیہ فتاویٰ اور آپس کے منا تناہی ذکر کرنے کے بعد کہا ہے۔

”وَنِي رِجُوعُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَرَدَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ دِلِيلٌ دَارِجٌ عَلَى أَنَّ  
الْخِلَافَ فِيهِمْ عِنْدَهُمْ خَطَاً وَصَوَابًا“ الخ کہ بعض صحابہؓ کا بعض کی  
طرف رجوع کرنا اور ایک دوسرے کے موقف کی تردید کرنا اس بات  
کی واضح دلیل ہے کہ ان کا باہم اختلاف ان کے نزدیک صواب اور  
خطا پر مبنی تھا۔“ (الجامع۔ ج 2 ص 87)

اسی موقف کی وضاحت میں ایک اور مقام پر حضرت ابن عباسؓ اور حضرت مسروٰ بن  
خزرج کے مابین ایک مسئلہ کے اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے بڑے بلیغانہ انداز میں لکھا ہے۔

”وَلَوْ كَانَ كَالنَّجْوِ مِنْ فِي أَهْلِهِمْ وَاجْتَهَادُهُمْ إِذَا اخْتَلَفُوا فَقَالَ

ابن عباس للمسور أَنْتَ نَجْمٌ وَأَنَا نَجْمٌ فَلَا عَدِيلٌ وَبَأْيَنَا أَقْدَنِي فِي

قَوْلِهِ فَقَدْ اهْتَدَى“ (التمسید۔ ج 4 ص 264)

”اگر اختلافی مسائل میں صحابہ کرامؓ کے اجتہاد اور ان کی  
آراء ستاروں کی مانند ہوتیں تو حضرت ابن عباسؓ حضرت مسروٰؓ سے  
کہتے کہ تم بھی ستارے ہو میں بھی ستارا ہوں۔ آپ پر کوئی اعتراض  
نہیں اور جو کوئی ہم میں سے کسی ایک کے قول کی اقتدا کرے گا،  
ہدایت پا جائے گا۔“

جمهور اہل علم اور ائمہ اربعہ کی بھی سی رائے ہے اور علمائے احتجاف بھی اسی کے  
قاںل ہیں کہ سلف کے مابین اختلافی مسائل میں عند اللہ حق ایک ہے اور اگر کسی سے تقع  
و تحری کے باوجود خطا ہوئی تو وہ عند اللہ معذور و ماجور ہے۔ جس کی تفصیل اعلاء السن کے  
مقدمہ (ج 2 ص 235) میں دیکھی جاسکتی ہے۔ جس کا عنوان ہی جملی حروف سے یہ ہے۔“

تحقیقی کون الحق، واحد افی محل الخلاف“ مولانا شبیر احمد عثمانی مرحوم کے تین رسائل ”مجموعہ رسائل ملاشہ“ کے عنوان سے ادارہ اسلامیات لاہور سے شائع شدہ ہیں۔ جس کے صفحہ ۱۳ سے ۴۰ تک میں اسی موضوع پر تفصیل بحث ہے ان کے الفاظ ہیں:-

مذہب مختار یہی ہے کہ تمام مسائل منصوصہ اصلیہ اور فرعیہ کی طرح ان مسائل میں بھی عند اللہ کوئی ایک حق ہے کہ جس کی ملاش میں مجتہدین اپنی اپنی قوت اجتہاد صرف کرتے ہیں۔ انغ۔

(مجموعہ رسائل ص ۱۹)

مولانا عثمانی نے اس بارے میں متعدد اہل علم کی عبارتیں بھی نقل کی ہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سے اہل علم نے بھی یہی کہا ہے مگر اس تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ لہذا جو حضرات سلف کے اختلاف کو توسع پر محول کرتے ہیں ان کا موقف درست نہیں۔ یہ

(۱) یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مولانا عثمانی نے اس بحث کے آخر میں کہا ہے کہ بلاشبہ چاروں امام وحدت حق کے قائل ہیں تاہم کسی مجتہد کے متعلق جھٹ پٹ جعلی کا لفظ استعمال کرنا خلاف احتیاط ہے۔ اس بارے میں انہوں نے امام احمدؓ کا ایک طویل قول نقل کیا ہے۔ کہ ”دو مختلف حدیثوں میں سے اگر کوئی پورے اجتہاد کے بعد ایک حدیث پر عمل کرتا ہے تو اسے دوسرے کو باطل پر نہیں کہنا چاہیے۔ البتہ اگر ایک حدیث صحیح ہو اور دوسری ضعیف توبے کھلنے کما جائے گا کہ حق اہم کی طرف ہے جو حدیث صحیح سے استدلال کرتا ہے۔ مثلاً ”لایقتل مومن بکافر“ حدیث صحیح ہے تو جو کوئی اس کے مقابلہ میں ایسلیمانی کی حدیث سے استدلال کرے وہ جعلی ہو گا۔“ انغ (مجموعہ رسائل ص ۴۱-۴۰ جو بالہ فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۳ ص ۱۴۲) بلاشبہ کسی مجتہد کو جعلی کرنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے مگر دیکھنا یہ ہے کہ امام احمدؓ نے حدیث ”لایقتل مومن بکافر“ کہ مومن کو کافر کے بدله میں قتل نہ کیا جائے“ کے مقابلہ میں عبدالرحمن ابن ایسلیمانی کی ضعیف حدیث سے استدلال کرنے والوں کو جو جعلی کہا ہے کیا مولانا عثمانی اس سے متفق ہیں؟ یاد رہے کہ اس سے استدلال احتلاف نے کیا ہے اور امام ابو حیفہ“ کا یہی مذہب ہے کہ کافر ذی کے بدله میں مومن کو قتل کیا جائے گا۔

انداز خوش کن اور حسین ضرور ہے۔ مگر حقیقت سے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ افسوس کہ مولانا قاسی نے یہاں امام ابو حنیفہ اور مسلمہ خنی اصول کو بھی نظر انداز کر دیا ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ارشاد النحوں (ص 243) التقریر علی التحریر (ج 3 ص 306) الاحکام للامدی (ج 4 ص 414) روضۃ الناطر (ج 2 ص 246) فاتح الرحموت (ج 2 ص 381) مستضفی (ج 2 ص 363) الاحکام لابن حزم (ص 70 ج 5) وغیرہ

## کیا فروعی اختلاف رحمت ہے؟

ہمارے نزدیک امت مسلمہ کی بربادی کا ایک بڑا سبب اس کا باہم اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اختلاف و افتراق سے منع فرمایا

وَلَا تَأْنِي عَوْا فَقْشُلُوا وَتَذَهَّبُوا يَعْكُمْ (الانفال 46) ”آپس میں مت جھکڑو ورنہ کم ہت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکثر جائے گی۔“  
نیز فرمایا۔ ”وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَقَ اللَّهُ أَنْهَى نَحْرُكَانُوا شیعاً وَكُلُّ حزبٍ بِمَا لِلَّهِ مِنْ فَرْحَنَ (الروم 31-32) ”شکر کرنے والوں سے مت ہو۔ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور گروہ گروہ ہو گئے۔ ہر گروہ نازاں ہے اسی طریق پر جو اس کے پاس ہے۔“

اسی موضوع کی دوسری آیات میں تفرقی اور باہم اختلاف سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابی بن کعب اور حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے درمیان، اس مسئلہ میں اختلاف ہوا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا کیا ہے۔ حضرت ابیؓ نے فرمایا کہ درست ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے فرمایا یہ تب ہے، جب کپڑے نہ ہوں۔ یہ نزاع سن کر حضرت عمرؓ غصہ کی حالت میں تشریف لائے اور فرمایا۔

”أَخْتَلَفُوا جَلَانٌ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مَنْ يُنْظَرُ إِلَيْهِ وَيُؤْخَذُ عَنْهُ وَقَدْ صَدَقَ إِلَيْهِ يَالْيَالِ بْنِ مَسْعُودَ  
وَلَكُنِي لَا أَسْمِعُ أَحَدًا يَخْتَلِفُ فِيهِ بَعْدَ مَقَامِي هَذِهِ الْأَفْعُلَةِ بَهْ كَذَادَ  
كَذَا۔“ ”یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ایسے ساتھیوں

میں اختلاف ہوا جن کی طرف دیکھا جاتا ہے اور ان پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ الٰہ نے صحیح کہا اور ابن مسعود نے کوئی کہی نہیں کی۔ لیکن اس کے بعد اس مسئلہ میں یہاں جس کسی کو اختلاف کرتے ہوئے دیکھوں گا اسے سزا دوں گا۔” (جامع بیان العلم، ج 2 ص 84)

غور فرمائیے جب ان پاکباز ہستیوں کا یون اختلاف حضرت عزٰز نے پسند نہیں فرمایا تو بعد کے دور میں جب یہی اختلاف باہم تفریق و تشتت کی حد تک پہنچ چکا ہو، اسے امت کے لیے رحمت کیوں کر قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگر اختلاف رحمت ہوتا تو اللہ تعالیٰ اختلاف کو چھوڑنے کا یوں حکم نہ فرماتے کہ فرد درہ الی اللہ والرسول ”اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔“ اختلاف سے بچنے کے لیے ہی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”خلفاء راشدین کے عمل کو مضبوطی سے پکڑنا۔“ (۱) مگر افسوس کہ اس کے بر عکس اختلاف پسندوں نے اس سلسلے میں ایک حدیث ہی بھالی کہ ”اختلاف امتی رحمۃ“ کہ ”میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔“ حالانکہ یہ روایت بالکل بے اصل اور موضوع ہے۔ علامہ ”السناوی“ نے علامہ البکری سے نقل کیا ہے کہ لحرافعی سنت صحيح ولا ضعیف ولا موضوع (فیض القدری ج 1 ص 212) کہ ”میں اس کی کسی صحیح یا ضعیف یا موضوع سند سے واقف نہیں۔ علامہ ابن حزم اپنے مخصوص انداز میں فرماتے ہیں۔“ لوگان الاختلاف رحمۃ فکان الاتفاق سخطاً و هذاما لا یقوله مسلم“ (الاحکام ج 5 ص 64) کہ ”اگر اختلاف رحمت ہے تو پھر اتفاق یقیناً نارا نصیل کا سبب ہو گا“ اور ایسی بات کوئی بھی مسلمان نہیں کہ سکتا۔“ مولانا تاکی صاحب ان براہین کے بر عکس فرماتے ہیں۔

”دین کے فروعی حصہ میں امت کا اختلاف ہیشہ امت کے لیے رحمت تصور کیا گیا ہے۔“ (بینات ص 20)

اولاً” یہاں ہمارے نزدیک اصول و فروع کی تقسیم ہی درست نہیں کہ اصول میں اختلاف تو عذاب ہے اور فروع میں رحمت۔

(ثانیاً) کیا ایک کپڑے میں نماز کا اختلاف فروعی ہے یا اصولی؟ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف سے ابھتاب کا جو حکم فرمایا ہے کیا اس سے مراد صرف اصول ہی کا اختلاف ہے۔ فروع اس سے خارج کیوں ہیں؟ علامہ شاطبی رقطراز ہیں کہ

بعض حضرات کئے ہیں۔

” ان الاختلاف رحمة و ربما صرح صاحب هذا القول  
بالتشييع على من لازم القول المشهور والموافق لدليل او الراجح  
عند اهل النظر والذى عليه اکثر المسلمين ويقول له لقد حجت  
واسعا ومت بالناس الى الحرج و ما في الدين من حرج وما اشبه  
ذلك وهذا القول خطأ كله وجهل بما دضعت له الشريعة و  
الموفق بيد الله۔“

کہ ”اختلاف رحمت ہے اور بسا اوقات یہ لوگ اس فحص پر  
طعن و ملامت کرتے ہیں جو مشهور قول کو لازم سمجھتا ہے یا جو دلیل  
کے موافق یا جو اہل علم کے نزدیک راجح ہے اور اس پر اکثر  
مسلمانوں کا عمل ہے۔ اسے اختیار کرتا ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ تم  
نے تنگی پیدا کر دی ہے۔ اور لوگوں کو مشقت میں بٹلا کر دیا ہے۔  
حالانکہ دین میں کوئی تنگی نہیں، مگر یہ ساری بات غلط اور اصول  
شریعت سے بے خبری پر منی ہے۔ اور توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کے  
ہاتھ میں ہے۔“ (الموافقات- ج 4 ص 142)

علامہ شاطبیؒ نے دلیل کی بجائے علماء کے اقوال پر اعتماد کرنے کی خرابیوں کا تذکرہ کرتے  
ہوئے آئھوں خرابی یہ بیان کی ہے کہ جن لوگوں نے صرف ”الرجال“ یعنی علماء کے اقوال  
پر اعتماد کیا ہے انہوں نے ان کے اقوال و فتاویٰ کو اپنی خواہشات کی تحریک کا ذریعہ بنا لیا  
ہے چنانچہ سائل کی غرض اور اس کے مطلوب کی تحریک کے لیے علماء کے اقوال میں مفید  
مقصد قول تلاش کر کے مخفی اس بنا پر اس کے مطابق فتویٰ دے دیا جاتا ہے کہ علماء کا  
اختلاف رحمت ہے۔ بلکہ علامہ خطابیؒ نے تو بعض سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ کل مسئلہ  
ثبت لاحد من العلماء فيها القول بالجواز۔ شذعن الجماعة اولاً۔ فالمسئلة جائزۃ“، جس  
مسئلہ کا جواز کسی علم سے ثابت ہے۔ (خواہ اس نے علماء سے شد و ذنب انتیار کیا ہے اس  
کے مطابق فتویٰ دینا جائز ہے۔“ میں نے اس کی مزید وضاحت ”الموافقات“ میں بیان کی  
ہے۔ (الاعظام ج 2 ص 353-354) غور فرمائیے کہ امت کے اختلاف کو رحمت کئے والے

بسا اوقات انصاف کی، حدود کو کس طرح پہاندتے، اور دلیل کی بجائے صرف "الرجال" پر اعتقاد کر کے خواہشات کی بھیکیل کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اعاذنا اللہ منہ۔ حالانکہ ائمہ کرام نے ہر دور میں ان شاز اقوال سے اجتناب کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اس کی انتہائی مکروہ شکل وہ ہے جس کی طرف الاعتصام کے حاشیہ میں علامہ رشید رضاؒ نے اشارہ کیا ہے کہ بعض عبد الدنیار و الدر حم اُنی شاز اقوال پر پیسے لے کر فتوی دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ (حاشیہ الاعتصام ج 2 ص 354)

مولانا قاسمی صاحب نے اس بارے نہیں حضرت عمر بن عبد العزیزؓ اور امام مالکؓ کے اقوال سے استدلال کیا ہے کہ امام مالکؓ نے منصورؓ کی اس درخواست کو قبول نہیں فرمایا کہ موٹاکی نقیس شروں میں بھیج دی جائیں اور انہیں پابند کیا جائے کہ وہ اسی کے مطابق فیصلے کیا کریں اور حضرت عمرؓ بن عبد العزیزؓ نے یہ فرمان جاری کیا تھا۔ "کہ ہر ملک کے باشندے اپنے علاقے کے فتحاء کے فیصلوں کے مطابق عمل کریں۔" (بینات ص 21) مگر ان اقوال سے اختلاف امت کے رحمت ہونے پر استدلال درست نہیں کیوں کہ امام مالکؓ اور حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کا یہ فرمان اس دور کا ہے جب حدیث کمل طور پر مدون نہیں ہوئی تھی۔ صحابہ کرام نے مختلف ممالک اور شروں کو اپنا مسکن بنا لیا تھا اور انہی کی مرویات پر ان شروں پر عمل ہو رہا تھا۔ امام مالکؓ کے جواب میں تو اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ:-

"ذان الناس قدسيت اليهم الا قاديل وسمعوا احاديث و  
رددوا روايات وأخذ كل قوم بما سيق اليهم" ... الخ (بجۃ اللہ ج 1 ص

(144) نیز دیکھئے السیر (ج 2 ص 78)

"امیر المؤمنین یوں نہ کہجئے یعنی موٹاکو دوسرے شروں پر  
سلط نہ کہجئے کیونکہ لوگوں تک اس سے پہلے اقوال پہنچ چکے ہیں۔  
انہوں نے احادیث سنی ہیں، روایات کی ہیں۔ ہر قوم نے ان اقوال و  
روايات کو اختیار کر لیا ہے جو ان تک پہلے پہنچ ہیں۔"

علامہ ابن کثیرؓ نے امام صاحبؓ کے الفاظ یوں نقل کئے ہیں۔ "ان الناس قد جمعوا  
واطلعوا على اشياء مانطلع عليها"۔ (شرح اختصار علوم الحدیث ص 31) "کہ لوگوں نے

احادیث کو جمع کیا ہے اور وہ ایسی باتوں پر مطلع ہوئے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوا۔ ”اسی طرح اجتہادی بصیرت میں تقاضت کا وجود بھی مسلم امر ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت احوال میں اگر حکومت کے زور بازو سے موٹا اور امام مالک“ کے اجتہاد کو تمام شروں میں نافذ العمل قرار دے دیا جاتا تو یہ حکم اتفاق کی بجائے افتراق رہ انتشار کا باعث بن جاتا بلکہ بعد کے حالات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ امام محمد بن حسن شیعیانی کی ”الردد علی اهلالمدینۃ“ کو جانے دیجئے۔ امام شافعیؓ نے، جو امام مالک“ کے شاگرد اور فقہ المان الراۓ کے مقابلہ میں امام مالک“ کے ہمتوں ہیں، دلائل سے موٹا کے بیسیوں مسائل سے اختلاف کیا بلکہ بعض ماکنی محققین نے بھی موٹا کے کئی مسائل سے اتفاق نہیں کیا۔ البتہ امام مالک“ کے اس قول سے قاسی صاحب کا یہ نتیجہ بالکل درست ہے کہ:-

”اگر مسائل فقہ اور احکام جزئیہ میں عام مسلمانوں کو کسی مسلک پر متفق کرنا مطلوب شرعی ہوتا یا اسلام میں اس کی مجبانی ہوتی تو امام مالک“ جیسا اسلام اور مسلمانوں کا بھی خواہ اس زریں موقوفہ سے کیوں نہ فائدہ اٹھاتا۔“ (بینات ج 2 ص 21)

اپنی طرح اسی ضمن میں ان کا یہ ارشاد بھی بجا ہے کہ:-

مسائل خلافیہ میں اپنے مسلک کی وضاحت کرنے اور دلائل پیش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں لیکن اپنے مسلک کو راجح و مقبول بیان کے لیے اس طرح دعوت و تحریک چلانا جس سے مسلمان آبادیوں کا سکون درہم برہم ہو جائے اور معركہ حق و باطل کا شبه ہونے لگے اس کی مجبانی نہیں۔ (ص 21-22)

بلاشبہ اسلام نے کسی کو حقی، ماکنی، شافعی، حنبلی بنے کا ملکت نہیں بنایا۔ اسلام کا مطابق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچی اطاعت و محبت ہے۔ دین اسلام کی ہر جزی کے علم کا کون دعویٰ کر سکتا ہے اور انوار نبوت کو کسی ایک قیسہ یا مجتمد و امام میں مقید کیوں کر کیا جا سکتا ہے۔ لہذا ایک ہی فقیہ کے مذهب کا الزام نہ شرعاً درست ہے نہ عقلًا“ اور نہ عامۃ الناس ہی کو اس کی پابندی پر مجبور کرنا صحیح ہے۔ مگر شائد قارئین اور بالخصوص قاسی صاحب کو یاد نہیں کہ مرحوم صدر خیاء الحق کے دور میں شریعت

مل کے سلسلے میں جب بات بڑھی تو صرف فقہ حنفی کو راجح کرنے اور "عالیٰ تکریری" کو نافذ العمل قرار دینے کے لیے جس انداز سے مطالبہ کیے گئے۔ کیا وہ امام مالک" اور قاسی صاحب کے موقف کے مطابق تھا؟ اگر "موطاً" کو قانونی حیثیت نہ دینے کا فیصلہ درست تھا تو عالیٰ تکریری کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیتا صحیح ہے؟ اگر "اسلام" میں موطاً کے نفاذ کی "محجاش" نہیں تو "عالیٰ تکریری" کو یہ محجاش کماں سے مل گئی۔ مولانا قاسی صاحب کو شاید علم نہیں کہ اسی ماہنامہ بیانات میں ایک دیوبندی عالم نے لکھا تھا۔

"سوال یہ ہے کہ آخر ہنا بنا یا اسلام فقہ حنفی کو مقصد بنا نے سے کیوں شرمیا جاتا ہے جن کا قرآن محفوظ نہیں، وہ تو اپنی فقہ کو محفوظ سمجھتے ہیں اور اس کا مطالبہ کرنے سے نہیں شرعاً تے لیکن ہم فقہ حنفی جو بار بار عدالتی نظاموں میں ہندوستان، ترک، افغانستان وغیرہ سب میں اور خود آپ کے ریاست ہائے بلوچستان اور ریاست ہائے سرحد میں کامیاب رہ چکا ہے اس کا نام لینے سے شرعاً تے ہیں۔ آخر ہماری دینی، مذہبی اور مسلکی غیرت کو کیا ہو گیا ہے۔ میری قلبی خواہش ہے اور دلی دعا ہے کہ آپ کا موقر جریدہ فقہ حنفی کے مطالبہ کے لیے وقف ہو۔ اس کے لیے عوام کو تیار کریں۔ آپ کا کوئی شہادہ اس مطالبہ سے خالی نہ ہو۔" (بیانات ص 22-23 - جنوری 1986ء)

مگر اس مطالبہ کے مقابلہ میں جب کتاب و سنت کی بالادستی اور نفاذ کا مطالبہ کیا گیا تو اس کے جواب میں کہا گیا۔

قرآن و سنت کی آڑ میں فقہ حنفی کی مخالفت کی تحریک پر علماء کرام کو کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ (بیانات ص 51 ، اپریل 1986ء)

اب اس کا فیصلہ تو قاسی صاحب ہی کر سکتے ہیں کہ کیا اس مطالبہ کی "اسلام میں محجاش" تھی اور کیا یہ "مطلوب شرعی" تھا؟

## ائمه کے اختلاف اور فرقہ بندی

فقی مسائل میں اختلافات صحابہ کرام اور تابعین عظام میں اور بعد میں ائمہ مجتہدین میں بھی پائے جاتے ہیں مگر وہ اختلافات اجتماعی اور دلائل میں تیج اور تفہیم کی بناء پر تھے۔ ان مسائل کی بنیاد پر ان میں نہ کوئی فرقہ بندی تھی نہ تشتت و انتشار۔ بلا تالیل ایک دوسرے کے پیچے نمازیں پڑھتے اور دل و جان سے ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عزرا اور حضرت عبد اللہ بن مسعود سفر میں نماز قصری کے قائل تھے۔ باسیں ہمہ حضرت عثمانؓ کے پیچے منی میں چار رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔ (مسلم ج 1 ص 243 وغیرہ)

شah ولی اللہ " محمدث ولسوی لکھتے ہیں:-

"صحابہ و تابعین میں بعض نماز میں بسم اللہ پڑھتے بعض نہیں پڑھتے تھے۔ بعض جبرا" پڑھتے بعض آہستہ، بعض صبح کی نماز میں قوت پڑھتے بعض نہیں پڑھتے، بعض تنگی لگوانے، نکیر بنے اور تے سے وضو کرتے اور بعض نہیں کرتے تھے، بعض شرمگاہ اور عورت کو چھونے سے وضو کرتے اور بعض نہیں کرتے تھے۔ بعض آگ سے کپی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو کرتے اور بعض نہیں کرتے، بعض اذٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرتے اور بعض نہیں کرتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کے پیچے نمازیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ اور ان کے تلاندہ اور شافعی وغیرہ مدینہ کے ماںکی ائمہ وغیرہ کے پیچے نمازیں پڑھتے تھے۔ حالانکہ وہ نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے نہ جرا نہ سرا۔ خلیفہ رشیدؓ نے نماز پڑھائی حالانکہ اس نے تنگی لگوانی تھی۔ امام ابو یوسفؓ نے اس کے پیچے نماز پڑھی، اس کا اعانت نہیں کیا۔ امام احمدؓ نکیر بنے اور تنگی لگوانے سے وضو ثبوت جانے کے قائل تھے۔ انہیں کہا گیا کہ اگر امام کے جسم کے کسی حصہ سے خون نکل آئے اور وہ بغیر دوبارہ وضو کئے نماز پڑھائے کیا اس کے پیچے نماز پڑھی جائے؟ تو انہوں نے فرمایا میں امام ماںک" اور سعیدؓ بن سیب کے پیچے نماز کیوں نہیں پڑھوں گا۔"

(جیۃ اللہ ج 1 ص 159، المغنی لابن قدامة ج 2 ص 27، التہمید ج 11 ص 139)

الغرض صحابہ کرام اور تابعین عظام اور انہے اربعہ میں بھی ان مسائل میں اختلاف تھا مگر پھر بھی وہ باہم شیر و شکر تھے۔ اور ایک دوسرے کے بیچے نمازیں پڑھتے تھے۔ اور حتی الوضع اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرتے۔ حدیث کا پتہ جل جاتا تو موقف بدل لیتے جس کی بیسیوں مثالیں موجود ہیں مگر تفصیل کی یہاں سمجھائش نہیں۔ لیکن اس کے بعد جب تہذید وجود کا دور آیا تو یہ توسع اور یہ صورت باقی نہ رہی۔ ابواللیث فقیہ السرقندی نے صاف طور پر لکھا کہ

”شافعی کی اقتدا حنفی کو اسی صورت میں جائز ہے جب وہ متحققب نہ ہو۔ ایمان کے بارے میں ”إِنَّ شَاءَ اللَّهُ أَنَا مُؤْمِنٌ“ نہ کہتا ہو۔ قبلہ سے انحراف شدید نہ کرے۔ سیستم کے علاوہ اس کے بدن سے کوئی چیز نکلے۔ (خون وغیرہ) تو اس سے وضو کرے، ماء قلبین میں اگر نجاست گری ہو تو اس سے وضو نہ کیا ہو۔ رکوع کو جاتے اور اٹھتے وقت رفع الیدين نہ کرے۔“ (ملاحظہ ہو تقدیمی

النوازل، ص 48-49)

آخر الذکر کے علاوہ باقی تقریباً یہی شروط قاضی خان ج 1 ص 91 روایت المختار (ج 1 ص 563-564) (مالکیہ مع قاضی خان ج 1 ص 84) (الاتمار خانیہ ج 1 ص 652) میں بھی منقول ہیں۔ نیز دیکھئے فتح القدر لابن الہام، ج 1 ص 313-

اختلاف ہی نہیں بلکہ جمہور شافعی کا بھی یہی فتوی ہے کہ اگر ثابت ہو جائے کہ حنفی امام نے ایسی حالت میں نماز پڑھائی ہے جو ہمارے نزدیک نماز نامناسب ہونے کا سبب ہے تو اس کے بیچے نماز درست نہیں ہو گی۔ مثلاً اگر حنفی امام نے وضوء کے بعد عورت کو چھووا ہے یا نماز المیتان سے نہیں پڑھائی۔ تو امام قفال کے نزدیک اس کی اقتداء درست لیکن جمہور شافعی کے نزدیک اس کے بیچے نماز درست نہیں علامہ نووی لکھتے ہیں صبح اقتداء الشافعی به عند القفال وخالفه الجمهور وهو الصحيح۔ کہ یہی جمہور کی بات صحیح ہے۔

شرح المذب (ج 4 ص 289) بلکہ انہوں نے لکھا ہے کہ امام ابوالصالح اسفاری کے نزدیک شافعی کو حنفی امام کی مطلقاً اقتداء نہیں کرنی چاہئے۔ یہی نہیں بلکہ اگر حنفی امام نے اپنے مسلک سے بٹ کر شافعی مسلک کے مطابق وضوء کیا ہو تو جمہور شافعی کے نزدیک اس حنفی

امام کے پیچے نماز درست ہے مگر امام قفال فرماتے ہیں کہ اس کے پیچے نماز درست نہیں ہو سکی۔ مثلاً ختنی امام نے وضوء کے بعد فصلہ کروایا یا سکنی لگوائی اور شافعی مسلک کے مطابق وضوء نہ کیا (کہ شوافع کے نزدیک خون نٹکنے سے وضوء نہیں ٹوٹتا) تو جہور شوافع اس کے پیچے نماز درست کرتے ہیں کہ اعتبار مقتدی کے عقیدہ کا ہے۔ مگر امام قفال مروزی جو شوافع میں بلند پایہ امام شمار ہوتے ہیں فرماتے ہیں کہ گو ختنی امام نے شوافع کے فتویٰ پر عمل کیا لیکن چونکہ اعتبار امام کے اپنے عقیدہ کا ہے اس لئے اس کے پیچے نماز جائز نہیں۔ ملاحظہ ہو شرح المذب (ج 4 ص 289، ج 1 ص 203)

یعنی اگر امام کی نماز اس کے مسلک کے مطابق درست ہے تو امام قفال فرماتے ہیں اس کی اقتداء درست ہے لیکن جہور شوافع کا کہنا ہے کہ امام کے مسلک کے مطابق اس کی نماز درست نہ بھی ہو مقتدی کے مطابق ہو تو مقتدی کی نماز ہو جائے گی۔ مزید برآں یہ بات بھی کہی گئی کہ امام الادوائی اور الحلسی جو شوافع میں جلیل التقدیر امام شمار ہوتے ہیں نے کہا ہے کہ اگر نماز پڑھانے والا حاکم وقت یا اس کا نائب ہو اور اس نے نماز میں کوئی ایسا عمل چھوڑ دیا جس کے بارے میں مقتدی کا مسلک ہے کہ وہ نماز میں واجب ہے تو اس کے پیچے نماز ہو جائے گی کیونکہ اگر وہ حاکم کے پیچے نماز نہیں پڑھے گا تو فتنہ میں جلا ہونے کا اندیشہ ہے امام رافعی نے بھی اس کی تحسین کی ہے۔ علامہ نووی کے الفاظ ہیں ”**لما فیہ من الفتنة وقال الوازنی وهذا احسن**“ شرح المذب (ج 4 ص 289) مطبوعہ المکتبہ السلفیہ مدینہ منورہ۔

غور فرمائیے کہ ایسی صورت میں حاکم وقت کے پیچے تو نماز پڑھنا درست اور نہ پڑھنا فتنہ کا باعث ہے لیکن ختنی امام کے پیچے نماز درست نہیں اور نہ ہی وہاں فتنہ کا کوئی اندیشہ ہے۔ گویا صحابہ کرام تابعین عظام اور آئمہ اربعہ کے طرز عمل سے ہٹ کر یہ حد بندی یہ انتشار و افتراق کوئی فتنہ نہیں، انا للہ وانا علیہ راجعون۔

امیر کاتب الالقانی ختنی المتنی 758 جو شارح حدایہ ہیں اور احتجاف کے اکابر واعیان میں شمار ہوتے ہیں نے ”رفع الیدين“ کے بارے میں ایک رسالہ لکھا۔ جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میں 747ء میں دمشق کیا لوگ مغرب کی نماز کے لئے جمع تھے۔ ہم نے نماز پڑھی امام صاحب نے رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدين کی تو میں نے اپنی

نماز دوبارہ پڑھی اور میں نے امام صاحب سے کہا آپ ماکی ہیں یا شافعی تو اس نے کہا میں شافعی ہوں تو میں نے کہا کیا حرج تھا اگر آپ نماز میں رفع یہ دین نہ کرتے تاکہ جو آپ کے مسلک کے مخالف مقتدى ہیں ان کی نماز فاسد نہ ہوتی تم نے جب رفع یہ دین کی ہماری نماز فاسد ہو گئی۔ (التعلیقات النیت علی الفوائد البہیۃ صفحہ 50)

علامہ لکھنؤیٰ اور دیگر اہل علم نے بلاشبہ امیرالاقالیٰ کی خوب تردید کی ہے لیکن ہمیں پہ ذکر کرنا ہے کہ تھا ابویث سرقدی ہی نہیں بعض دیگر حضرات بھی اس بات کے قائل رہے ہیں کہ رفع یہ دین کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جو رفع یہ دین کرتا ہے التاتارخانیہ ج 1 ص 562 میں بھی ہے کہ رفع الی دین نماز میں کمرہ ہے۔ خلاصہ کہدائی (صفحہ 15) میں ہے کہ نماز کے محramات میں سے یہ بھی ہے کہ جبراً "بسم اللہ پڑھی جائے۔ رفع الی دین کی جائے، بلند آواز سے آمین کی جائے" اور اہل حدیث کی طرح شحد میں انگشت شادت سے اشارہ کیا جائے۔ بدائع السنائع ج 1 ص 548 اور شرح المنيہ میں بھی رفع الی دین کو نماز کے لیے موجب فساد اور کمرہ تحریکی قرار دیا گیا ہے۔ (فیض الباری ج 2 ص 257) اسی تجھ نظری اور فتویٰ بازی کا نتیجہ تھا کہ عین بلند الامین میں علیحدہ علیحدہ چار مصلوں کو رواج دیا گیا۔ ابن جیبر انڈلسی المتنی 614ء نے سفر نامہ میں اپنا چشم دید واقعہ بیان کیا ہے کہ

"اہل سنت کے آئمہ میں سب سے پہلے امام شافعی" کے سلسلے پر نماز ہوتی ہے۔ ان کے بعد ماکی نماز پڑھتے ہیں مگر مغرب کی نماز کی شیخی کی وجہ سے سب امام ایک ساتھ ہی ادا کرتے ہیں۔ اس وقت کی نماز میں تمام مقتدى اپنے اپنے موزن اور اماموں کی آوازوں پر بغور متوجہ رہتے ہیں۔ اس لئے کہ چاروں طرف سے کان میں تکبیروں کی آواز آتی ہے اور نمازوں کو دھوکا ہوتا ہے کبھی ماکی، شافعی اور حنبلی موزنوں کی تکبیر پر رکوع و سجدہ کرتے ہیں اور کبھی اپنے امام کے ظلاف دوسرے امام کے ساتھ سلام پھیر دیتے ہیں" (سفر نامہ مترجم صفحہ 85)

بلاشبہ ہر دور میں بعض ماکی، حنفی، شافعی اعیان نے اس کی تردید کی۔ مگر کون نہیں

جانا کہ اس کی تحسین و تعریف کرنے والے بھی اکابر حضرات ہی ہیں۔ علامہ علی قاریؒ نے لکھا ہے کہ

”دلوکان لکل مذهب إما، كما في نزمامنا فالأفضل الاقتداء  
بالمواافق سواء تقدم أو تأخر على ما استحسنَه عامة المسلمين و  
عمل به جمهور المؤمنين من أهل الحرمين والقدس ومصر  
الشام ولاء عبرة بمن شذ منهم“ (روا المختار ج 1 ص 564)

”یعنی اگر ہر مذهب کا امام ہو جیسا کہ ہمارے زمانہ میں ہے تو افضل یہ ہے کہ اپنے مسلم کے موافق امام کی اقتداء کی جائے خواہ وہ پہلے نماز پڑھائے یا بعد میں کیونکہ آج عاصہ المسلمين نے اس کی تحسین کی ہے اور حرمٰن، بیت المقدس، مصر، شام کے جمہور مومنین نے اس پر عمل کیا ہے اور جو اس عمل کے خلاف ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں۔“

علامہ شامیؒ نے تو بیت اللہ میں تحرار جماعت کے جواز کی دلیل بھی پیش کر دی کہ دوبارہ جماعت وہاں درست نہیں جمال امام مقرر ہوں محلے کی مسجد ہو لیکن اگر مسجد شارع ہام پر ہو تو دوبارہ جماعت کرانا مکروہ نہیں اور بیت اللہ کا حکم مسجد شارع کا ہے محلہ کی مسجد کا نہیں۔ ان الفاظ ہیں۔

”أَنْ سُخُونَ الْمَسْجِدُ الْمَكْيُ وَالْمَدْنِي لَيْسَ لِهِ جَمَاعَةٌ مَعْلُومُونَ فَلَا  
يَصْدِقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَسْجِدٌ مَحْلَةٌ بَلْ هُوَ كُمَسْجِدٌ شَارِعٌ وَقَدْ مَرَأَنَهُ لَا  
كُراهَةُ فِي تَكْرَارِ الْجَمَاعَةِ فِيهِ إِجْمَاعًا“ (روا المختار ج 1 ص 553)

تقلید و جمود اور گروہی عصیت کی بھی کوئی انتہاء ہوتی ہے۔ اندازہ کچھ یہ کہ انسی فقی مسائل میں باہم مناکرو و مناقشو کے وقت روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت مرحمت فرمادی گئی؛ تاکہ پوری قوت سے ”باطل“ کے خلاف ”جناد“ ہو سکے۔ اور ”احتراف حق“ میں اسے کسی قسم کی کمزوری نہ آنے پائے۔ علامہ شعراویؒ اپنے شیخ علیؒ خواص سے ہائل ہیں کہ:-

قد بلغنا أن من وراء النهر جماعة من الشافعية والحنفية

یغطرون فی نهار رمضان لیتقو را علی الجدال داد حاضر بعضهم  
حجج بعض" (المیران الکبریٰ، ج 1 ص 43)

ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ ماوراء النهر میں شافعیوں اور حنفیوں کی  
ایک جماعت رمضان المبارک میں دن کے وقت روزہ اظہار کر دیتی  
تھی تاکہ مناظرہ میں ایک دوسرے کے دلائل توجہ کے لئے وقت  
بحال رہے۔ (نعمود بالله)

دور نہ جائیے کیا آج علمائے احتجاف اس کی اجازت دیتے ہیں کہ کوئی حنفی، مسافر امام  
کے پیچھے جب وہ چار رکعتیں پڑھائے، نماز پڑھ سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود اور  
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کی نمازو حضرت عثمانؓ کے پیچھے ہو جائے مگر یہ حضرات  
اس کی اجازت نہیں دیتے آخر کیوں؟ اور کیا آج بھی وضو کے بغیر اگر امام کو عکسیر آجائے  
یا قے آجائے اور بلا اعادہ وضو نمازو پڑھائے تو علمائے احتجاف اس کے پیچھے نماز کے جواز کا  
فتوى صادر کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر مقلدین کے ان فقیحی اختلافات کو  
تفريق و تشتت کا باعث نہ کما جائے تو اور کیا کہا جائے؟ خیر القرون میں انہی مسائل پر  
اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھی جاتی تھی مگر تقليد وجود کے دور میں یہ  
توسع اور رواداری ختم ہو گئی اور امت دھڑے بندیوں اور مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر  
رہ گئی۔ اس اختلاف کی افسوسناک صورت حال یہ ہے کہ بعد میں اپنے آپ کو تسلی دینے  
اور اپنے فقیحی مسلک پر تھے رہنے کے لیے مختلف فقیحی مسائل کی حیثیت کو "شارع متعدد"  
"بادر کر لیا گیا۔ (فیض التدیر للمناوی۔ ج 1 ص 209) اور مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم بھی  
لکھتے ہیں:-

"علامہ عبد الرؤوف" مناوی شارح جامع صیر کی تحقیق کے  
مطابق فقہائے امت کے مختلف مسلک کا وہ درجہ ہو گا جو زمانہ سابق  
میں انبیاء علیم السلام کے مختلف شرائع کو تھا کہ مختلف ہونے کے  
باوجود سب کی سب اللہ علی کے ایکام تھے۔ ( المعارف القرآن ج 3

ص 364)

حضرت مولانا رسول خان صاحب مرحوم نے 1354ھ میں انجمن خدام الملک دیوبند

کے سالانہ جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا۔

یہ شبہ کہ امام صاحب کی تکلید کی جاتی ہے۔ اور دوسروں کے مسلک کو بھی حق کہا جاتا ہے تو دوسروں کے مسلک کو حق کہنے کے کیا معنی؟ جواب یہ ہے کہ ہمارے لیے جیسا کہ سب کتب نازلہ اور انبیاء و مرسیین پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مگر عمل قرآن کے علاوہ اور کسی کتاب پر جائز نہیں ایسا ہی امام صاحب کا اتباع ہم پر ہے سب مذکورہ پالا تحقیق خارجی میں ضروری ہے اور اعتقاد حقانیت مذاہب دیگر بھی ضروری ہے۔“

(قاسم العلوم رب ج 1 شمارہ 11 بحوالہ تنظیم الہ حدیث 22)

تبر (۳۸)

یہاں چند باشیں قابل غور ہیں۔

(۱) حضرات صحابہ کرام کے مابین مختلف فیہ فقی مسائل کی تو یہ حیثیت نہ ہو۔ تمام مقلدین حسب حال ان کی توجیہ یا تردید کریں، مگر انہم مجتہدین کے اختلافات کو شرائع متعددہ باور کر کے تمام کو درست سمجھ لیا جائے۔ آخر کیوں؟

(۲) مسائل منصوصہ کے علاوہ قیاسی اور اجتہادی مسائل جن کے بارے میں خود مقلدین حضرات کا کہتا ہے کہ مذہبنا صواب یحتمل الخطأ کہ ہمارا مذہب درست ہے مگر اس میں خطأ کا احتمال ہے لہذا وہ مسئلہ کتب سابقہ کی طرح سب کے سب حق کیسے قرار پائے؟

(۳) ایسے مسائل جن کی بیان نص کے مقابلہ میں محض قیاس یا انتہائی ضعیف دلیل پر ہو بلکہ منصف مزاج مقلدین نے بھی ان سے اتفاق نہ کیا ہو۔ کیا ”قرآن“ سمجھ کر ان پر عمل فویل للذین یکتبوں الکتاب بائید یکہم ثم یقیولون هذامن عند اللہ (البقرہ: 79) ”پس دلیل ہے ان کے لیے جو کتاب خود لکھتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔“ کے ذمہ میں نہیں آتا؟

اس سے قطع نظر کیا ”شرائع متعددہ“ سمجھ کر چپ سادہ لی گئی اور سب کو حق سمجھ کر برداشت کر لیا گیا؟ قطعاً نہیں۔ صورت واقعہ یہ ہے کہ محمد بن موسی الحنفی المتنفی

506 جو دشمن کے منصب قضاۓ پر فائز تھے، کما کرتے تھے۔

لوكان لي أمر لأخذت الجزية من الشافعية (ميزان

الاعتدال، ج 4 ص 52، الجوادر المصنية، ج 2 ص 136) کہ ”اگر

مجھے اختیار ہو تو شافعیوں سے جزیہ وصول کروں۔“

بھی نہیں بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ شافعیوں سے رشتہ مناکحت جائز نہیں چنانچہ قادی

برازیہ میں ہے۔

وقال الإمام الشافعي روى لا ينبغي للحنفي ان يتزوج بنته من

شافعى المذهب ولكن يتزوج منهم، (برازیہ علی حامش المندیہ

ج 4 ص 112)

کہ ”امام الشافعی روى“ کہا ہے کہ کسی خاتمی کے لیے مناسب

نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح کسی شافعی مرد سے کرے۔ لیکن شافعی

لوکی سے نکاح کر سکتا ہے۔“

یعنی جیسے اہل کتاب ہیں کہ ان کی عورتوں سے تو نکاح حلال ہے مگر مسلمان عورت کا  
نکاح اہل کتاب سے حرام اور منوع ہے۔ نیز ملاحظہ ہوا بحر الرائق (باب الوتر والواقف) ج

ص 3 (2) (110)

بتلائیے اس سے بڑھ کر فرقہ بندی کی سکرودہ صورت اور کیا ہو گی؟

مولانا قاسمی بڑی سادگی سے لکھتے ہیں۔

”فقہی ممالک کے اختلاف کی وجہ سے مسلمانوں میں کبھی

جنگ و جدال، قتل و قتل کی نوبت نہیں آئی۔“

اور یہ بھی کہہ:

”کیا کوئی بتلا سکتا ہے کہ خنیوں کی فوج شافعیوں کے مقابلے

میں یا مالکیوں کا رسالہ ضبلیوں کے مقابلہ میں اس لیے صف آراء

کبھی کبھی کسی زمانہ میں ہوا تھا کہ ان میں ایک کا دوسرے سے

مزہبی اختلاف تھا۔“ (بینات ص 22-23)

## مقلدین کی باہمی لڑائی اور محاذ آرائی

مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ مذہبی اختلاف کے نتیجہ میں جو ہولناک لڑائیاں ہوئیں۔ ان کی داستان طویل ہے۔  
علامہ یاقوت المجموعی کا بیان ہے کہ:-

”الری“ میں تین گروہ تھے۔ شافعی سب سے کم ان سے زیادہ خنی، جب کہ وہاں کثرت شیعوں کی تھی۔ بلکہ نصف آبادی شیعوں کی تھی۔ وہاں پہلے شیعہ سنی فساد ہوا تو شافعیوں اور خفیوں نے مل کر شیعوں کو تھس نہ کر ڈالا تاً آنکہ کوئی قابل ذکر شیعہ نہ فتح سکا اس کے بعد خفیوں اور شافعیوں کے درمیان لڑائیاں ہوئیں۔ شافعی تعداد میں کم ہونے کے باوجود ہر بار غالب آتے تھے۔ ”الرستاق“ کے خنی بھی اپنے ہمنواہوں کی امداد کے لیے آتے مگر کوئی پیش نہ جاتی۔ یہاں تک کہ شافعیوں اور خفیوں میں سے وہی فتح سکا جس نے اپنے ملک کو چھپائے رکھا اور اپنے چھپنے کے لیے گمراہ کوہ خانوادہ میں منتقل کر لیا۔ اگر وہ یوں نہ کرتے تو ان میں سے کوئی بھی نہ فتح سکتا۔ (مجموع البلدان، ج 3 ص 117-118۔ ظہر الاسلام ج 1 ص 80)

علامہ موصوف ”امہان“ کے حالات میں لکھتے ہیں۔

اس زمانہ میں اور اس سے پہلے امہان اور اس کے گرد و نواح میں شافعیوں اور خفیوں کے مابین تعصب کے نتیجہ میں بڑی پھیل گئی۔ دونوں میں مسلسل آئندہ دن تک لڑائی رہی۔ جب کوئی ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کر لیتا تو وہ ان کے مکانات اکھاڑ کر انہیں جلا ڈالتا اور انہیں یہ گھناؤتا کردار ادا کرتے کوئی عار محسوس نہ ہوتی۔ خلق کثیر اس ہنگامہ کی نظر ہوئی۔“

(مجموع البلدان ج 1 ص 209 ۲۰۹ ظہر الاسلام ج 1 ص 80، الکامل ج 11 ص 319)

علامہ ابن اشیٰ نے 323ھ کے حوادث میں لکھا ہے کہ حنبلہ کی شان و شوکت بڑھ گئی جماں بھی نمیز دیکھتے اسے گردیتے، مخفیہ پاتے تو اسے مارتے اور آلات لمود لعب توڑ دیتے، کوئی مرد، عورت اور بچوں کے ساتھ چلتا نظر آ جاتا تو اسے پوچھتے یہ کون ہے وہ اگر صحیح ہتلا رہتا تو نبھا، ورنہ اسے مارتے بد کردار اور فاحشہ قرار دے کر انہیں سپاہیوں کے سپرد کر دیتے۔ جمادی الآخری میں بدر الخرشی نے نواحی بغداد میں اعلان کروادیا کہ دو خلبی کسی جگہ جمع نہیں ہو سکتے اور نہ کوئی ان سے مناظرہ و مناقشہ کرے۔ مغرب، عشاء اور صحیح کی نمازوں میں (امام شافعی کے قول کے مطابق) بسم اللہ بلند آواز سے پڑھے بغیر کوئی امام نماز نہ پڑھائے۔ جس پر فتنہ مزید بڑھا کوئی شافعی المذهب مل جاتا تو مار کر شیم مردہ کر دیتے۔

(الکامل صفحہ 8 ص 308-307)

حنابلہ اور شوافع کے مابین عقائد کے بارے میں اختلافات اور اس مسئلے میں رونما ہونے والے فسادات سے تاریخ کا ہر طالب علم واقف ہے خلبی عقائد کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ ”کل من لم يكن حنبلياً فليس بمسلم“ کہ جو خلبی نہیں وہ مسلم نہیں۔  
(سر اعلام النبلاع ج 18 ص 508 ذیل طبقات الحنابلہ ج 1 ص 52)  
بر سر منبر و محراب کہا جاتا۔

”أَنَا حنْبَلٌ مَا حَيَّتِي دُونَ أُمَّتٍ - فَوَصِيَّتِي لِلنَّاسِ أَنْ يَتَعَنَّبُوا“  
کہ میں زندگی بھر خلبی ہوں اگر مر جاؤ تو میری لوگوں کو وصیت ہے کہ وہ خلبی بنیں۔ (طبقات الشافعیہ ج 3 ص 117 ذیل طبقات الحنابلہ ج 1 ص 53)  
اس کے پر عکس اشعری جو فروع میں شافعی ہیں انہیں صحیم کا طعنہ دیتے بلکہ ابو بکر ابکری نے یہاں تک کہ امام احمد نے کفر کا ارتکاب نہیں کیا لیکن خلبی کافر ہیں اور ساتھ یہ آیت بھی پڑھی۔ ”وَمَا كَفَرَ سَيِّمَانٌ وَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا“ تفصیل کے لئے دیکھئے۔ (السر ج 18 ص 562، الکامل ابن اشیٰ ج 10 ص 124)

”هرۃ میں شیخ ابو اسماعیل“ المردی الانصاری سے جو سلوک سلطان الہ ارسلان کی موجودگی میں ہراۃ کے ”مشائخ“ اور رؤسانے کیا اس کے نقل کرنے سے قلم کو بھی حیا آتی ہے۔ شائیخین سے درخواست ہے کہ وہ اس کے لئے تذکرۃ الحفاظ ج 3 ص 1188 ذیل طبقات الحنابلہ ج 1 ص 55 اور سر اعلام النبلاع ج 18 ص 512 ملاحظہ فرمائیں۔

شیخ عبدالکریم ابو القاسم الشیری کے بیٹے شیخ ابو نصر ۴۶۹ھ میں بغداد آئے مدرسہ نظامیہ میں وعظ کی مجلس قائم کی وہ چونکہ اشعری تھے حنبلہ کے ساتھ اختلاف بہرک انحصار ایسا فتنہ رونما ہوا کہ فرقین کی ایک جماعت ماری گئی۔ (وفیات الاعیان ج ۳ ص ۲۰۸ ذیل طبقات الحنابلہ ج ۱ ص ۲۱۹ الحسینیج ۱۸ ص ۳۱۹)

امام ابن جریر طبری فوت ہوئے تو حنبلہ نے انسیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دیا۔ رفقاء کو رات کے وقت ان کے گھر ہی میں دفن کرنا پڑا۔ (البدایہ صفحہ ج ۱۱ ص ۱۴۶، نمر الاسلام ج ۲ ص ۴)

شیخ محمد بن محمد الشافعی بغداد آئے نظامیہ میں وعظ و ارشاد کا حلقة قائم کیا حنبلہ کی زمست کرتے تھے ایک دن انہیں اسماں آئے شروع ہوئے اور اسی عارضہ میں انتقال کر گئے وہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ ایک جماعت بھی اسی حادثہ کی نظر ہو گئی اس کا سبب یہ ہتھ لایا گیا کہ حنبلہ نے انسیں حلوہ میں زہر ملا کر دیا تھا۔ جس کے نتیجہ میں یہ حادثہ رونما ہوا۔ (الکامل ج ۱۱ ص ۳۷۶ مراۃ الجنان ج ۳ صفحہ ۳۸۲)

علامہ ابن اثیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ ۷۳۷ھ میں بغداد میں عظیم فتنہ رونما ہوا امام ابو بکر المرزوqi الحنبلی کے تلامذہ اور دوسرے لوگوں میں "عسی ان یبعثنک ربک مقاماً محسوداً۔" کی تفسیر میں اختلاف ہوا، حنبلہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ عرش پر بیٹھائیں گے اور دوسرے حضرات نے کہا کہ اس آیت میں شفاعت کبریٰ کا ذکر ہے (جیسا کہ صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے) اختلاف استدر برہا کہ فرقین کے مابین لڑائی ہوئی اور "قتل بینہم قتلی کثیرۃ" طرفین میں سے بہت سے افراد قتل ہو گئے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی اس فتنہ کا ذکر بڑے تاسف سے کیا ہے ملاحظہ ہو

(البدایہ ج ۱۲۲ الحکایہ ج ۸ ص ۲۲۳)

"مصر" امام شافعی کا مدنی ہے اسی پر شوافعی سمجھتے تھے کہ مصر میں امام شافعیؒ کا "سکہ" چنان چاہئے۔ مولانا ابوالحسن ندوی طبقات الشافعیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ "جب الملک: ظاہر نیرس نے پچھلے دستور کے برخلاف شافعی قاضی القضاہ کے علاوہ باقی تین زادہب کے بھی علیحدہ علیحدہ قاضی مقرر کئے تو قسماء شافعیہ نے اس کو ناپسندیدگی کی نظر سے۔

دیکھا اس لئے کہ وہ مصر کو شافعی قاضی القناہ کے تحت دیکھنا چاہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ  
قدیم روایات اور امام شافعی "کامدن" کا مدن ہونے کی وجہ سے مصر پر مذہب شافعی کا حق ہے جب  
بیرس کی حکومت کا خاتمه ہوا اور اس کے خاندان سے حکومت ختم ہوئی تو بعض شافعیہ  
نے اس کو اسی فعل کی سزا اور قدرتی انتقام سمجھا" (تاریخ دعوت و عزیمت ج 2 ص 34) نیز  
دیکھئے (طبقات الشافعیہ ج 1 ص 174)

595ھ میں حافظ عبدالغفار المقدسی سے دمشق میں معاذین نے جو کچھ کیا اس کی  
تفصیل ایسی ج 21 ص 458، ذیل طبقات الحنابلہ لابن رجب ج 2 ص 21 اور البدایہ ج 13  
ص 20'21 میں دیکھی جاسکتی ہے۔ حنابلہ کا منبر توڑ دیا گیا، شافعی کے علاوہ کسی اور کو جامع  
دمشق میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ حنابلہ ظہر کی نماز نہ پڑھ سکے ان کا ساز و سامان اور  
کتب اٹھا کر باہر پھیلک دی گئیں۔ حافظ ابن کثیر بڑے افسوس سے اس پر تبروکتے  
ہوئے لکھتے ہیں "وجرت خبطة شديدة نعوذ بالله من الفتنة ظهر منها و ما بطن۔"

447ھ میں مدینہ الاسلام بغداد میں شافعی اور حنابلہ کے مابین معرکہ ہوا۔ حنابلہ  
بڑی شدت سے نماز میں بسم اللہ جمرا" پڑھنے، صحن کی نماز میں قتوت پڑھنے اور ترجیح فی  
الاذان سے روکنے لگے۔ ایک مسجد میں پنجے اور امام کو بسم اللہ جمرا پڑھنے سے منع کیا وہ اٹھا  
اور قرآن پاک لے آیا کہا بسم اللہ کو قرآن پاک سے مٹا دو تاکہ میں یہ جمرا نماز میں نہ  
پڑھوں۔ (الکامل ج 9 ص 614)

باہم مذہبی مخالفت ہی کا نتیجہ ہے کہ امام الحرمین نے امام ابو حنیفہ اور حنفی مسلمک  
کے خلاف "معیث الخلق" لکھی۔ جس میں دفور عصیت میں ایسے واقعات لکھے جن کی تائید  
تاریخی شواہد کی روشنی میں قطعاً نہیں کی جاسکتی۔ رہی سی کسر امام غزالی نے "المخلول"  
میں نکال دی۔ المخلول لکھ کر جب اسے اپنے استاد امام الحرمین کے سامنے پیش کیا تو انہوں  
نے اسے دیکھ کر فرمایا "دفتنتی و أنا حی هلا صبرت حتى الموت" لہ تو نے تو مجھے زندہ  
دفن کر دیا اتنا صبر تو کرتے کہ جب میں مر جاتا پھر یہ کتاب لکھ لیتے۔ (المسلم ج 9 ص 169)  
کتب طبقات میں اپنے مسلمک کے خلاف رائے رکھنے والے آئمہ و شیعیخ کے بارے  
میں تبروکتے کسی طالب علم سے مخفی نہیں۔

اندلس اور بلاد مغرب میں عموماً مکمل فقہ کا راجح تھا احادیث میں عموماً موطا پر اعتماد

کیا جاتا تھا امام بقیٰ بن محدث جب بنداد اور دیگر بلاد مشرق سے حدیث کا علم پڑھ کر والیں اندلس تشریف لے گئے تو اپنے ساتھ مصنف ابن الی شیبہ کا نسخہ بھی لے کر گئے لوگوں نے ان سے مصنف ابن الی شیبہ کو پڑھنا شروع کیا تو وہاں کے مالکی قلماء اپنے سائل و موقف سے اختلاف کی تاب نہ لاسکے۔ وہ حضرات صحبت سے مخالفت پر اتر آئے اور نبوت یہاں تک پہنچی کہ عوام نے امام بقیٰ بن محدث پر یورش کر کے کتاب کی قرأت کو موقوف کرا دیا اور انہیں زندیق تک کما گیا۔ بات اندلس کے فرمازدا محمد بن عبد الوہب حنفی الاموی تک پہنچی تو انہوں نے امام بقیٰ بن محدث کو مع فرق مخالف اپنے ہاں طلب کیا۔ المصنف کا ایک ایک جز پڑھا گیا بعد ازاں اس نے اپنے خازن سے کمایہ دہ کتاب ہے جس سے ہمارا کتب خانہ مستغنى نہیں رہ سکتا ہمارے لئے بھی اس کے نسخہ کا بندوبست کرو پھر امام بقیٰ بن محدث سے کہا آپ اپنے علم کو پھیلائیئے اور معتبرین کو ہدایت کر دی کہ آئندہ ان سے کسی قسم کا تعریض نہ کریں۔ معتبرین کی جماعت کے سر خلیل اصیح بن خلیل نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ۔

”لُؤْنٌ يَكُونُ فِي تَابُوْنِي هُوَ أَسْخَنُ مِنْ أَحَبِّ إِلِي مِنْ أَنْ يَكُونَ  
فِيهَا مَصْنُفُ ابْنِ الْبَقِيرِ“ اگر میری کتابوں میں خزیر کا سر رکھ دیا  
جائے تو وہ مجھے پسند ہے اس سے کہ ان میں مصنف ابن الی شیبہ

۔

یہ تمام تفصیل سیر اعلام النبلاء (ج 13 ص 288، 290) لسان المیران ج 1 ص 458 نغمہ  
اللیب (ج 3 ص 273) ترتیب الدارک (ج 3 ص 143، 144) تذكرة الحفاظ (ج 2 ص  
630) وغیرہ میں دیکھی جاسکتی ہے۔ علامہ شاطبیؒ نے الاعظام (ج 2 ص 348) میں بھی اس  
واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے اور کہا ہے کہ تقلید کی چوتھی خرابی یہی ہے کہ مقلد اپنے امام  
کی رائے کو ہی شریعت سمجھتا ہے اس کے مقابلہ میں کسی مجتہد کی بات کو سننا گوارا نہیں  
کرتا اور اس پر طعن و تفہیم کے نشتر اور نقد و جرح کے نیزے چلانے سے بھی گریز نہیں  
کرتا جیسا کہ امام بقیٰ بن محدث سے ہوا جب وہ بلاد مشرق سے پڑھ کر اندلس تشریف لے  
گئے۔

یاد رہے کہ اصیح بن خلیل المتنی 350 مشور مالکی فقیہ گزرے ہیں جو پچاس سال

تک اندرس کے قاضی رہے ان کے جمود و تعصب کا اندازہ لگائیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے نام سے یہ روایت گھر دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھیں، حضرت ابو بکرؓ کے پیچھے دو سال پانچ ماہ تک نمازیں پڑھیں۔ حضرت عمرؓ کے پیچھے دس سال نمازیں پڑھیں حضرت عثمانؓ کے پیچھے بارہ سال نمازیں پڑھیں اور کونے میں حضرت علیؓ کے پیچھے پانچ سال نمازیں پڑھیں ان میں سے کوئی بھی پہلی تجھیر کے علاوہ رفع یہین نہیں کرتا تھا۔ یہ کمالی بالکل جھوٹی ہے تاریخ کے طالب علم سے مخفی نہیں کہ حضرت ابنؓ مسعود کا انتقال 32ھ میں ہو گیا تھا لذرا حضرت عثمانؓ کے پیچھے کمل بارہ سال اور کوفہ میں پانچ سال تک حضرت علیؓ کے پیچھے کیوں نمازیں پڑھ سکتے تھے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے ترتیب المدارک (ج 3 ص 143) لسان (ج 1 ص 458) ذیل الالیاء (ص 180) وغیرہ لذرا اگر اس صفت کے حامل ”قاضی صاحب“ ابن الی شیبہ کے بارے میں اس عصیت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ کوئی اجنبیسے کی بات نہیں۔

دور نہ جائیے ہمارے پر صیرپاک و ہند میں خنی، الحمد لله نزار کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے مگر خود خنی حضرات میں دیوبندی و بیلوی اختلافات سے کون بے خبر ہے؟ کون سا فتوے ہی جو ایک دوسرے کے خلاف نہیں داغا گیا؟ پیران باصفا اور اصحاب جبہ و دستار تک نے بھی جو مقفع و مسجع صلوٰاتیں ایک دوسرے کو سنائیں ان سے پارسائی کا سارا بھرم کھل جاتا ہے۔ ایک دوسرے کی مساجد پر قبضے اور پاہم لڑائی جھنڈوں کے واقعات سے کون واقع نہیں۔

ہمیں یاد ہے سب ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو

مگر افسوس کہ ان تمام واقعات سے آنکھیں بند کر کے کھا جاتا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ ہر دور میں درد مندل رکھنیوالے حضرات نے ایسے واقعات پر خون کے آنسو بھائے نفرتوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اس قسم کی فتنہ پروازی کی بہر آئینہ نہ مدت کی، اور اسے اسلام اور مسلمانوں کے لئے نقصان وہ قرار دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ قسمی اور اجتہادی مسائل میں اس قسم کی لڑائیوں کی اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ بلکہ یہ اسلام پر بد نہاد واغ ہیں۔ اسلام تو پاہم پیار و محبت اور صلح و آشتی کا درس دیتا اور رواداری کی تائید کرتا ہے۔ سلف کا یہی معمول تھا بلکہ ائمہ اربعہ رحم

اللہ کی تصریحات بھی اسی کی موید ہیں کہ قسمی اختلافات میں تنگ نظری، اور ایک بہرے کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کا کوئی جواز نہیں جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ مگر افسوس کہ انہی تقلید اور شخصیت پرستی نے سلف اور انہم محدثین کے معمول کے بر عکس جو دن کو ہوا دی یہ لڑائیاں اسی فکر ناہموار کا نتیجہ ہیں اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی پستی میں بڑا عمل دخل ان کے باہمی انتشار و اختلافات کو ہے۔ مولانا سید صباح الدین عبدالرحمن ناظم دار المصنفین اعظم گزہ اسی کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ان فرقہ بندیوں سے مسلمانوں میں جو انتشار پھیلا وہ ان کے سیاسی انتشار سے کم ملک ثابت نہیں ہوا۔“

(مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسہاب ص 29)

چند سطور بعد لکھتے ہیں۔

”خنابلہ“ یہیش اشاعرہ کے مخالف رہے۔ دونوں میں کشت و خون کی نوبت پہنچ جاتی۔ امام غزالیؒ نے امام ابو حنیفہؓ پر نہایت سخت نکتہ چینی کی تو ان کے خلافین ان کو ذندیق اور مخدود قرار دینے سے باز نہیں آئے۔ این تیہیؓ کے حاسدوں نے ان کو بار بار قید بھجوایا۔ آخری بار قید ہوئے۔ تو وفات پا کر چھوٹے۔ آج بھی جہاں کمیں مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے لوگ جمع ہوتے ہیں تو چھوٹے بڑے نہ ہی اختلاف پر خون ریز تصادم بھی ہو جاتا ہے۔ اسلام کے مغلر شاعر مشرق علام اقبالؒ کو یہ احساس رہا کہ مسلمانوں نے اپنی ہوا خیزی کے باوجود اللہ کے فرمان اور رسول کی ہدایت پر عمل نہیں کیا۔ اس لیے انہوں نے اپنے خون دل کی یونہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد مسلمانوں کے لیے قلم بند کیا ہے۔

منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک  
ایک ہی سب کا نبی ، دین بھی ایمان بھی ایک  
حرم پاک بھی ، اللہ بھی ، قرآن بھی ایک

کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک  
فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں  
کیا زمانے میں پہنچنے کی بھی ذاتیں ہیں  
چودہ سو سال کے بعد مسلمان اپنی فرقہ بندی کے الیہ پر خون کے آنسو بھائیں اور  
سوچیں کہ ان کے لیے زمانے میں پہنچنے کی ذاتیں کون سی ہیں۔” (ایضاً” ص 31-30)

لہذا آئندہ اربعہ کے بعد ان کی تقلید میں فرقہ بندی کے اختلافات کو رحمت قرار دنا  
حقیقت سے آنکھیں بند کر لینے کے متراوٹ اور وانستہ یا نادانستہ طور پر تغیریں و تشتت اور  
فرقہ بندیوں کی حوصلہ افزائی اور تائید و حمایت ہے۔

### اختلافات کے چند اسباب

ہم پہلے عرض کر آئے ہیں کہ جن مسائل میں حضرات فتحیہ کرام کا اختلاف ہے  
ان میں اکثر و پیشتر ایسے مسائل ہیں جو صحابہ کرام اور تابعین عظام کے دور میں بھی مختلف  
فیہ رہے ہیں۔ ان کے مابین اختلاف کا سبب کیا ہے۔ اس پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دیگر  
حضرات نے تفصیلاً بحث کی ہے اور اس سلسلے میں پیدا ہونے والی غلط فضیوں کا ازالہ کرچکے  
ہیں، مگر عصر حاضر میں شیخ محمد عوامہ نے اپنے ذہنی تختیقات کے پیش نظر اس بحث پر جب  
قلم اٹھایا تو اس میں بھیتیت مجموعی آئندہ مجتہدین کے متعلق حسن غلن کی بجائے سوہ غلن کا  
پہلو پایا جاتا ہے اور جو اسہاب ذکر کئے ہیں حقیقت ان کا تعلق سلف کے اختلاف سے بھی  
قطعًا ” نہیں۔ مقلدین حضرات کا عموماً یہ طرزِ عمل ہے کہ وہ اپنے اپنے امام کے تحفظ میں  
اس پر وارد شدہ اعتراضات کے جواب میں ایسا تماشا ہانا بنتے ہیں، جس سے دوسرے مجتہدین  
کے بارے میں گستاخی کا پہلو نمایاں نظر آتا ہے ملکہ بعض نے تو جرأۃ رذانہ میں دوسرے  
آئندہ پر بے علمی اور جمل کی سچیت سے بھی گریز نہیں کیا جس کی تفصیل کا یہ محل نہیں۔

پہلا سبب سلف کے اختلاف کے بارے میں شیخ محمد عوامہ وغیروں نے ذکر کیا ہے

کہ

”خبر واحد کی صیحہ و تضیییف اور قابل استدلال ہونے میں آئندہ  
مجتہدین کے اصولی اختلافات اور یہ ان کے مابین پائے جانے والے

اختلافات کا ایک اہم سبب ہے۔ جہور علماء کے نزدیک صحت حدیث کے لئے پانچ شریں ضروری ہیں۔ (1) اتصال سند، (2) عدالت راوی، (3) راوی کا نسباط ہونا، (4) سند و متن کا تشدید سے خالی ہونا، (5) علی قادر سے خالی ہونا۔ اتصال سند کے بارے میں یہا اختلاف ہے۔ امام بخاری و فیروز کے نزدیک اتصال سند کے لئے راوی اور اس کے شیخ میں کم از کم ایک بار ملاقات ضروری ہے جبکہ امام مسلم نے مقدمہ مسلم میں لقاء کی شرط نہ ہونے پر اجماع کا دعویٰ کیا اور محسن امکان لقاء کو کافی تصور کیا ہے۔ اسی اختلاف کی بناء پر وہ بہت سی روایات جنہیں امام مسلم نے امکان لقاء کی بناء پر صحیح قرار دیا ہے صحت سے خارج ہو جائیں گی۔“ ملخصاً (اثر الحدیث ص 20-21)

بینات ص 26-27)

مگر انصاف پسند حضرات بتائیں کہ صحت حدیث کے بارے میں اتصال سند کے اس اختلاف کا صحابہ کرام، تابعین عظام اور آئمہ اربعہ رحمٰهم اللہ کے اختلافات سے کیا تعلق ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم کے بعد فقیہ روایات کے بارے میں فقہائے کرام اور محدثین عظام اور پھر قرون ماضیہ میں اس اختلاف کا تذکرہ کتابوں میں مذکور ہے اور ہر فرقہ بوقت ضرورت امام بخاری کے اصول پر اتصال سند کا مطالبہ کرتا نظر آتا ہے لیکن اس اصولی اختلاف کا تعلق سلف کے اختلافات سے قطعاً نہیں اور اسے آئمہ اربعہ کے فقیہ اختلافات کا سبب قرار دینے میں جو سخن سازی کی گئی وہ محسن ناخواندہ حضرات کی آنکھوں میں دھول جھوٹنے کی ناپاک جمارت ہے۔

**حدیث مرسل** اتصال سند ہی سے متعلقہ ایک مسئلہ حدیث مرسل کا ہے۔ جہور محدثین کے نزدیک احادیث مرسلہ کو ضعیف احادیث میں شمار کیا گیا ہے اور یہی رائے اقرب الی الصواب ہے جس کی تفصیل الرسالہ للامام الشافعی صفحہ ۱۴۶۲ لکفایہ صفحہ ۵۴۷، جامع التصیل، ص ۳۰-۳۱) ابن الصلاح صفحہ ۴۹ الاحکام، ج ۲ ص ۵، تدریب الراوی، ص 119 مقدمہ شرح مسلم صفحہ ۱۷، ارشاد النحوں صفحہ ۶۱، توجیہ النظر من ۲۴۴، التہمید ج ۱ ص

397 صفحہ 4 ج 1 لکھت لابن حجر  
 اخصار علوم الحدیث صفحہ 152 الطعل للتلذی مع الشرح  
 وغیرہ میں دیکھی جاسکتی ہے۔ یہاں یہ بات خوش آئند ہے کہ مولانا قاسی صاحب نے عموماً  
 حقیقی علماء کے بر عکس یہ بات کھلے دل سے تسلیم کر لی ہے کہ ”ابن جریر طبری“ کا یہ دعویٰ تو  
 صحیح نہیں کہ مرسل کے قبول کرنے پر تابعین کا اجماع ہے۔” (بیانات دسمبر صفحہ 28) ورنہ  
 بعض نیم چڑھے حضرات نے تو امام ابن جریر کے قول کی بنیاد پر یہاں تک کہہ دیا ہے  
 کہ مرسل کی جیعت کا انکار دوسرا صدی کے بعد کی بدعت ہے (معاذ اللہ) احقاق الحق ص  
 46 للتوثیری حافظ ابن حجر“ لکھتے ہیں۔

”وقد فتشت كثيرا من المراasil فوجدت عن غير العدد  
 بل سئل كثير منهم عن مشائخهم فذكر و حصر بالجرح۔

یعنی ”میں نے اکثر مراجع کی تحقیق کی تو انہیں غیر عامل روایوں سے  
 پایا۔ بلکہ جب ان سے ان کے شیخ کے بارے میں دریافت کیا گیا

تو انہوں نے ان کا ذکر جرح کے ساتھ کیا“ 1 لکھت ج 2 ص 550

”تقریباً“ یہی بات حضرت شاہ ولی اللہ رحلوی نے ج ۃ اللہ صفحہ ج 1 ص 146 میں کہی  
 ہے۔ حافظ ابن حزم تو فرماتے ہیں کہ اگر ہم مرسل روایات کی مسیتیں جمع کریں تو ایک  
 ضمیم جلد تیار ہو سکتی ہے۔ مرسل کی جیعت کے قائلین دراصل اپنے قول کو راجح کرنے کے  
 لئے مرسل کا سارا لیتے ہیں۔ ورنہ جب مرسل روایت ان کے مذهب کے خلاف آجائے تو  
 ”وَهُمْ أَتْرَأُ خَلْقُ اللَّهِ لِلْمَرْسَلِ“ وہ اللہ تعالیٰ کی خلوق میں سب سے زیادہ مرسل کو ترک  
 کرنے والے ہوتے ہیں۔“ (الاحکام ج 2 صفحہ 6)

علامہ ابن عبد البر قطراز ہیں۔

”میں نے مختلف فتناء اور مناظرین نیز اپنے مسلک اور دیگر محدثین  
 کی کتابوں پر غور و فکر کیا ہے۔ مگر میں نے ان میں سے کسی کو نہیں  
 دیکھا جس نے اپنے مد مقابل کے سامنے مرسل سے استدلال پر  
 قیصہ کی ہو۔ مناظرے کے دوران کوئی بھی مقطوع روایت کو قبول  
 نہیں کرتا بلکہ اپنے مد مقابل سے اتصال سند کا مطالبہ کرتا ہے اور  
 یہ اس لئے کہ یہ اختلاف ان کے مابین ہوتا ہے جو مرسل کی قبولیت

و عدم قبولت میں مخفف ہے۔ اگر کوئی مرسل کی محیت کا قائل ہے  
مرسل سے استدلال کرتا ہے۔ تو دوسرا جو اس کی محیت کا قائل  
نہیں کرتا ہے کوئی اور دلیل پیش کرو۔ میرے اور تمہارے درمیان  
اسی اصول پر تو اختلاف ہے۔ ہم مرسل کو قول نہیں کرتے اس کے  
بر عکس مرسل کی محیت کا مکمل جب مرسل کی قبولت کے قائل پر  
حدیث مرسل سے استدلال کرتا ہے تو وہ جواباً کرتا ہے تم ایسی  
روایت کیوں کر پیش کر سکتے ہو جو خود تمہارے نزدیک جنت نہیں۔  
ہم نے خلقی اور ماکنی کے درمیان کوئی منافرہ ایسا نہیں دیکھا جس میں  
مرسل کو قول کیا گیا ہو اور اس میں مرسل کی محیت کے بارے میں  
اپنے مذهب پر قائم رہا ہو۔” (التمہید، ج ۱ صفحہ ۷)

حافظ ابن حزم اور علامہ ابن عبد البر کا یہ تجزیہ ایسا حقیقت پسندانہ ہے جس کا کوئی  
بحث انکار نہیں کر سکتا۔ ضرورت محسوس ہوئی تو ان شاء اللہ ایسی مرایل ذکر کر دی  
جائیں گی جنہیں مرسل کی محیت کے قائمین مسلکی محیت میں محسن مرسل کہہ کر انکار کر  
جاتے ہیں اور ایسی مرایل بھی جن کی سند صحیح ہونے کے باوجود وہ صحیح احادیث کے مخالف  
ہیں اور تاریخی حقائق و شواہد بھی ان کا انکار کرتے ہیں۔

جهاں تک آئندہ اربعہ کے مابین اس مسئلے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں خود قاسمی  
صاحب نے علامہ آنہدیؒ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ۔

”امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمدؓ نے مرسل کو قول کیا ہے اور  
امام شافعیؓ نے فرمایا ہے کہ اگر مرسل صحابہ کے مرایل میں سے  
ہے یا ارسال کرنے والے کے علاوہ کسی نے اسے مند ذکر کیا ہے یا  
کسی اور راوی نے بھی اسے مرسل ذکر کیا ہے، یا اس حدیث مرسل  
کی تائید کسی صحابی کے قول یا اکثر اہل غلم کے مسلک سے ہوتی ہے  
یا ارسال کرنے والا ضعیف یا مجہول وغیرہ کمزور راویوں سے روایت  
نہ کرتا ہو جیسے سعید بن المیب“ ملخصاً (بینات صفحہ 27 - دسمبر)

نیز لکھتے ہیں۔

آنکہ مجتہدین کے نزدیک مراستل قابل استدلال اور حجت ہیں اور  
امام شافعی ان تمام مراستل کو مسترد کر دیتے ہیں جن میں مودیات  
اربعہ یا خسہ میں سے کوئی ایک مودید بھی نہیں پایا جاتا” (بینات  
جنوری صفحہ 13)

مرسل کے بارے میں امام شافعی کا مسلک کیا ہے؟ اور امام احمد کا موقف کیا ہے؟  
اس تفصیل سے قطع نظر ہمیں یہاں صرف یہ ذکر کرنا ہے کہ اس سبب کا تعلق امام شافعی  
اور دیگر فتحاء کے مابین اختلافی مسائل سے تو ہو سکتا ہے صحابہ کرام کے اختلافی مسائل  
سے اس کا کوئی تعلق نہیں امام شافعی نے ”الرسالة“ میں بڑی عجیب بات کہی ہے کہ اسکی  
مراستل موجود ہیں جن پر فتحاء اسلام میں سے کسی نے عمل نہیں کیا۔ مگر کوئی سنت ثابتہ  
اسکی نہیں جس کی مخالفت پر تمام کا اتفاق ہو۔ اس پر عمل کے بارے میں اختلاف ضرور ہے  
لیکن یوں نہیں کہ اس کے ترک پر اجماع ہو۔ ان کے آخری الفاظ ہیں۔

وَ فَامْا السَّنَةِ يَكُونُونَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى الْقَوْلِ بِخَلَا فَهَا فَلَمَّا اجْدَهَا قَطَّكُمْ  
وَجَدَتِ الرَّسُولُ عَنْ دِسْوَلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ”الرسالة“ ص

(467، 470)

اس حقیقت کے باوجود افسوس ہے کہ مولانا قاسمی نے بلا غور و تذریکوثری مرحوم کا  
یہ جملہ لکھ دیا کہ ”جس نے ارسال کی بنیاد پر حدیث کو ضعیف قرار دیا اس نے معقول با  
سنت کا نصف ترک کر دیا۔ (بینات صفحہ 13 جنوری) اور یہ سوچتے کی بھی زحمت نہیں کی کہ  
جب امام شافعی کی پیش کردہ شروط اربعہ یا خسہ کے مطابق مراستل ”معمول بہا“ ہیں تو پھر  
نصف سنت کے ترک کا کیا مطلب؟ بالخصوص جب کہ ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ ”  
اس کی تائید صحابی کے قول یا اکثر اہل علم کے مسلک سے ہوتی ہے“ لیکن وجہ ہے کہ شیخ محمد  
عوامہ نے استاد کوثری کا یہ جملہ لکھنے کے بعد صاف طور پر لکھا ہے کہ۔

”لَكُنْ يَقْلُ العَدْ كَثِيرًا إِذَا لاحظَنَا الْقُسْمَ الَّذِي يَتَقوِيُّ بِالْمُقْوِيَاتِ“

المسوغۃ لہ عند الامام الشافعی۔ راثمالحدیث ص ۲۳

”کہ یہ تعداد امام شافعی کی پیش کردہ مقویات کے بعد بہت کم ہو جاتی

“ ہے۔

اور یہ بات اپنی جگہ قابل غور ہے کہ کیا مراسیل معمول بہانت کا نصف ہیں؟ ہم تو اسے بھی کوڑی مرحوم کی روایتی مبالغہ آئیزی ہی سمجھتے ہیں۔ مگر کتب سنت اور اولہ فقیاء سے اس کی تائید قطعاً نہیں ہوتی۔ کیا مراسیل کی محیت کے قائمین بھی اپنے مسائل فقیہ میں نصف کے برابر صرف مراسیل پر اعتماد کرتے ہیں؟

افوس کہ مولانا قاسمی صاحب نے مرسل کی محیت اور اس کے قابل اعتماد ہونے کے بارے میں شیخ محمد عوامہ سے ہٹ کر یہاں تک لکھ دیا کہ۔

«بعض حضرات نے کہہ دیا کہ "من اسند فقد احالك و من ارسل  
نقد تکفل لک" جس نے پوری سند ذکر کی اس نے حدیث کی تحقیق  
تمہارے ذمہ کر دی اور جس نے ارسال کیا اس نے تمہارے لئے  
ذمہ داری قبول کی» (بنیات صفحہ ۱۳ جنوری ۱۹۹۰ء)

بلاشبہ بعض نے اس بنیاد پر یہ کہا ہے کہ "مرسل" سند سے قوی ہے لیکن یہ قول قطعاً درست نہیں۔ خود علمائے احتراف نے بھی اسے قبول نہیں کیا۔ چنانچہ مولانا فخر احمد عثمانی لکھتے ہیں۔

«المرسل دون المتصل عندنا خلاف ما قاله بعضهم من اسند فقد  
احالك و من ارسل فقد تکفل لک». (انہاء السنکن ص ۳)  
کہ "مرسل" ہمارے نزدیک تکلف سے کم درجہ پر ہے اور یہ بات  
اس کے برعکس ہے جو بعض نے کہی ہے کہ جس نے پوری سند ذکر  
کی۔ اس نے ذمہ داری تم پر ڈال دی اور جس نے ارسال کیا اس  
نے تمہاری ذمہ داری خود قبول کر لی۔"

دیکھا آپ نے کہ جس جملہ کو مولانا عثمانی اپنے ملک کے خلاف اور نعلٹ سمجھتے ہیں  
ہمارے میان اسی کو مرسل کی قبولیت کے لئے بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ رحبل الشیع  
یعنی ونیضم)

اسی طرح مرسل کی اہمیت کے بارے میں قاسمی صاحب نے  
یہ بھی کہا ہے کہ ابراہیمؑ نبھی کے ارسال کا یہ عالم ہے کہ وہ کما  
کرتے تھے کہ "جب میں تمہیں بیان کروں کہ فلاں مخصوص نے بیان

کیا ہے کہ اس نے حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تھا اسی شخص سے وہ روایت سنی اور اگر تم سے یہ کوئی کہ یہ عبد اللہ بن مسعود کی روایت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے متعدد اصحاب نے حضرت عبد اللہؓ سے یہ بیان کیا ہے” (بیانات ص 28 دسمبر 1989ء)

بلاشبہ حضرت عبد اللہ بن مسعود سے ابراہیمؓ غنی کی مراسel کو امام احمدؓ وغیرہ نے ”لاباس بجا“ کہا ہے لیکن حضرت علیؓ وغیرہ دیگر صحابہ سے ان کی مراسel کو قبول نہیں کیا گیا۔ جیسا کہ حافظ ابن حجرؓ نے انکت میں صراحت کی ہے اور ابراہیمؓ غنی کی حضرت ابن مسعود سے مراسel کے پارے میں علامہ ذہبیؓ نے کہا ہے کہ -

”استقر الامر على ان ابراهيم حجة وانه اذا ارسل عن ابن

مسعود وغیره فليس بحجة لبيان‘ ج 1 صفحہ 75)

”اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ ابراہیمؓ جدت ہے مگر جب وہ ابن مسعود وغیرہ سے روایت کرے تو جدت نہیں ہے“  
امام شافعی لکھتے ہیں۔

ابراهیم لوروی عن علی وعبد الله لم يقبل منه لدانه لم يلو وحداً  
منهما“

کہ ”ابراہیمؓ اگر حضرت علیؓ اور عبد اللہ بن مسعود سے روایت کریں تو مقبول نہ ہو گی کیوں کہ ان کی دونوں میں سے کسی ایک سے ملاقات نہیں“ (کتاب الام‘ ج 7 ص 271)

علامہ زلہیؓ ایک حدیث ”ابراہیم عن عبد اللہ“ کی سند سے بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ روایت قابل احتجاج نہیں کیوں کہ ”فأَنْجَمَدَا بْنُ جَابِرٍ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنَ الْأَمْمَةِ وَابْرَاهِيمَ لَمْ يَلْقَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَهُوَ ضَعِيفٌ وَمُنْقَطِعٌ“ (نصب الرأیہ۔ ج 1 ص 335)

”اس میں محمدؓ بن جابر ہے جس میں کئی آئمہ نے کلام کیا ہے اور

ابراهیمؐ کی حضرت عبد اللہ بن مسعود سے ملاقات نہیں۔ پس یہ روایت ضعیف اور منقطع ہے”

جس سے علامہ ذہبی کے موقف کی تائید ہوتی ہے کہ ابراہیمؐ کی حضرت عبد اللہ سے مرسل روایات پر بھی اعتماد نہیں کیا گیا۔

### عدالت راوی کے بارے میں اختلاف

محنت حدیث کی دوسری شرط یہ ہے کہ راوی عادل ہو۔ عدالت کی تعریف اور اس کے ثبوت میں بلاشبہ اختلاف پایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ بھی فقہاء کے مابین ہونے والے اختلافات کا ایک سبب ہے۔ مگر یاد رہے کہ اس کا تعلق بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم السَّلَامُ وَاٰلِہٖ وَسَلَامٌ کے درمیان ہونے والے اختلافات سے قطعاً نہیں۔ صحابہ کرام سب کے سب عادل تھے۔ اس کا تعلق بعد کے دور سے ہے۔ جس طرح فن حدیث نے بتدریج ترقی کی ہے۔ اسی طرح اس کے اصول و ضوابط میں بھی تدریجی ارتقا پایا جاتا ہے جسے بالآخر تمام آراء کے بعد محدثین اور آئمہ فن نے واضح کر دیا ہے کہ صحیح اور راجح پہلو کونا ہے۔ عدالت کے ثبوت میں اختلاف ہی اصول حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں بلکہ اس کے بارے میں فیصلہ اور صحیح سمت کی وضاحت بھی موجود ہے۔ اس اختلاف میں احوال و مکروف اور باہمی چہلٹ کو بھی دخل رہا ہے۔ مگر اس کے بارے میں آئمہ فن کی تصریحات بھی موجود ہیں کہ وہ کس حد تک مقبول اور کس حد تک مردود ہیں۔ ہمیں صرف اس بات کی وضاحت کرنا مطلوب ہے کہ ثبوت عدالت میں جو اختلافات ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر کا تعلق تابعین کرام اور آئمہ مجتہدین کے اختلافات سے بھی قطعاً نہیں۔

شیخ محمد عوامہ اور خصوصاً قاسی صاحب نے اس سلسلے میں فتنہ فلق قرآن کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس کا بھی فن اسماء الرجال پر غیر معقول اثر پڑا۔ بلاشبہ پڑا اور آئمہ تقدیم نے اس بارے میں بھی دفعہ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دکھایا۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس کا تابعین اور آئمہ مجتہدین کے اختلافات سے کیا تعلق ہے؟ اس فتنہ کا آغاز گو قرن ثالثی میں ہو چکا تھا مگر اس نے امام احمدؓ کے آخری دور میں زور پکڑا۔ خود قاسی صاحب لکھتے ہیں کہ ”<sup>218</sup>“ سے لے کر <sup>232</sup> تک اس فتنہ کی شدت رہی” (بیانات صفحہ 14 جنوری) لہذا بتلائیے اس

فقہ کا فقہاء ارجوہ یا اس سے قبل صحابہ و تابعین کے اختلافات میں کتنا عمل دخل ہو سکتا ہے؟ مولانا قاضی صاحب نے نسب داستان کے لئے اس مسئلے کے جو ناخونگوار واقعات ذکر کئے ہیں، ان کا تعلق نفس مسئلے سے قطعاً نہیں۔ ہمیں اس فتنہ سے انکار نہیں اور یہ بھی تسلیم شدہ ہے کہ اس کی بنا پر بڑے بڑے اعاظم رجال حدیث پر بھی کلام کیا گیا۔ لیکن کیا اسی فتنہ کی بنا پر امام ابو حنیفہ امام مالک یا امام شافعی نے کسی کو محروم العدالت قرار دیتے ہوئے اس کی روایت کو ناقابل اعتبار قرار دیا؟ کہ اسے بھی ان کے فقی خلافات میں ایک سبب پادر کر لیا جائے؟

(3) ضبط الراوی صحت حدیث کی تیری شرط یہ ہے کہ ”راوی“ ضابط ہو۔ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ضروری ہے کہ ”راوی“ نے حمل (سننے) سے لے کر اداء (بیان) کے وقت تک اس حدیث کو یاد رکھا ہو۔ اس پوری مدت میں اسے حدیث کا نیا نہ آیا ہو۔ ظاہر ہے اس شرط سے بہت سی احادیث کی صحیح و تعمیف کے بارے میں ان کا دوسرے ائمہ سے اختلاف لازمی ہے۔ ملخصاً

(بیانات ص ۹ جنوری، اثر الحدیث ص 24)

بلہ شبہ یہ شرط بڑی سخت اور بڑے ہی حرم و احتیاط پر منی ہے مگر اولاً اس کا اتساب امام ابو حنیفہ کی طرف محل نظر ہے۔ شیخ محمد عوام نے اسے علامہ طحاویؒ کے حوالہ سے نقل کیا ہے اور اس کا تذکرہ مولانا فخر احمد عثمانی مرحوم نے انعام اسکن صفحہ 81 میں بھی کیا ہے۔ جسے امام طحاویؒ نے سلیمان بن شعیب محدثاً بی قال امنی علیہما ابویوسف قال قال ابوحنیفة کی سند سے نقل کیا ہے جس میں قاضی ابویوسف کے شاگرد شعیب بن سلیمان مجہول ہیں۔ سید رشد اللہ شاہ الرشیدی رحمہ اللہ نے اسماء رجال الطحاوی صفحہ 47 میں اس کا ترجمہ لکھا ہے اور اس کی کوئی توثیق بیان نہیں کی۔ بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے ”المغافی“ کے علاوہ اور کہیں اس کا ذکر نہیں دیکھا اور سلیمان بن شعیب کے ترجمہ میں کسی قول ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ذکر ابن یونس شعیب بن سلیمان فی الغرباء الذین قدمو امصار میں اس کا ذکر کیا ہے۔ علامہ عبد القادر القرشی نے ”الجواہر المضیۃ فی طبقات الحنفیۃ ج 1 صفحہ 257“ میں بھی شعیب کا ذکر کیا ہے اور وہ اس قول کو بھی لائے ہیں مگر اس کی قطعاً ”توثیق بیان نہیں کی

لذا امام طحاویؒ کی جب یہ بیان کردہ سند عیٰ صحیح نہیں تو اس کا انتساب امام ابو حنفیؓ کی طرف کیوں نکر صحیح ہو سکتا ہے؟

شیخ محمد عوامہ نے مزید اس کے لئے "المدخل فی اصول الحدیث للحاکم" صفحہ ۱۵ کا بھی حوالہ دیا ہے اور مولانا عبد الرشید نعمانی صاحب نے بھی ما تمس الیہ الحاجۃ صفحہ ۱۱ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے مگر اس کی سند بھی صحیح نہیں۔ اسد بن نوح الفقیر اور اس کا استاد ابو عبد اللہ محمد بن مسلمہ دونوں مجموع ہیں تبع بسیار کے باوجود ان کا ترجیح کمیں نہیں ملا۔ اس کے علاوہ تاریخ بغداد ج ۱۳ صفحہ ۴۱۹ اور ۱ لکھنایہ صفحہ ۲۳۱ میں اس کے ہم سنتی قول امام سعیؓ سے منقول ہے کہ امام ابو حنفیؓ فرماتے ہیں کہ "وئی حدیث بیان کی جائے جو یاد ہو" اس کی اسانید سے قطع نظر یہی دیکھئے کہ امام سعیؓ بن معین کی امام ابو حنفیؓ سے ملاقات کیا معاصرت بھی نہیں۔ امام ابو حنفیؓ ۱۵۰ھ میں فوت ہوئے جب کہ امام سعیؓ کا سن پیدائش ان کی وفات سے آٹھ سال بعد ۱۵۸ھ ہے۔ (تاریخ بغداد، ج ۱۴ صفحہ ۱۸۷، الوفیات، ج ۶ صفحہ ۱۴۱) لذا جب یہ قول عیٰ سند ا" محل نظر ہے تو اس سے استدلال کیوں نکر درست ہے؟

مانیا" اکر تسلیم کر لیا جائے کہ صحت سند سے یہ قول امام ابو حنفیؓ سے ثابت ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا امام صاحب اپنی اس شرط پر قائم رہ سکے ہیں یا نہیں؟ کتنی روایات ہیں جن میں ان کے تفرد پر محدثین نے کلام کیا ہے اور کتنی روایات ہیں جنہیں ان کے بیان کردہ الفاظ پر اعتماد خود علمائے احتجاف نے نہیں کیا۔ قطع نظر اس کے کہ محدثین نے انہیں "سی الحفظ" اور "کثیر الغلط" قرار دیا ہے۔ خود امام ابو حنفیؓ کا فرمان انہی کے شاگرد رشید امام ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن یزید مقربی یوں نقل کرتے ہیں کہ۔

"سمعت ابا حنفیة يقول عامة ما احد ثلم به خطأ"

(تاریخ بغداد، ج ۱۳ صفحہ ۴۰۲، الکامل، ج ۷ صفحہ ۲۴۷۳)

"کہ میں نے امام ابو حنفیؓ سے سنا فرماتے تھے، میری بیان کردہ عام حدیثیں غلط ہیں۔"

امام صاحب کا یہ قول سند ا" صحیح ہے۔ (۱) لذا محدثین کی تصریحات کے ساتھ ساتھ

حاسوبیہ اگلے صفحہ پر

جب خود ان کا اپنا اعتراف یہ ہے کہ "میری بیان کردہ عام حدیثیں خطا ہیں" تو پھر یہ قول کیا ہوا کہ "وہ وہی روایت بیان کرتے ہیں جو انہیں یاد ہوتی ہے علمائے احتجاف کے نزدیک وضو میں سر کا سچ ایک بار مسنون ہے مگر امام شافعیؓ باقی اعضا کی طرح تین بار سچ راس کو سنت قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں جن روایات سے استدلال کیا ہے ان کی تاویل کے ساتھ ساتھ علمائے احتجاف کا کہنا ہے کہ وہ روایات ضعیف ہیں۔ صاحب ہدایہ علامہ مرغینانیؓ لکھتے ہیں۔ "وَالذِّي يَرْوِي مِنَ التَّشْذِيثِ مُحْمُولٌ عَلَيْهِ بِمَا وَاحَدَ" کہ تین بار سچ کی جو روایات ہیں وہ اس پر محوول ہیں کہ ایک ہی بار پانی سے سچ کیا تھا۔ علامہ ابن حام" وَالذِّي يَرْوِي " کے الفاظ کی شرح میں لکھتے ہیں۔ "بِالْتَّرْيِيفِ يُشَعِّرُ بِضَعْفِهِ" کہ صاحب ہدایہ نے صیغہ تریف سے ان روایات کی طرف اشارہ کیا ہے جو ان کے ضعف پر مشتمل ہیں (فتح القدر، ج 1 ص 22) علامہ لکھنؤیؓ انہی روایات کے بارے میں لکھتے ہیں۔

وأجاب الصحابة عن هذه الأخبار بضعف هذه الأخبار لا العاية ج 1

ص 133)

"کہ ہمارے اصحاب نے ان احادیث کے بارے میں جواب دیا ہے کہ یہ ضعیف ہیں۔"

انہی روایات میں سے ایک روایت حضرت علیؓ سے مروی ہے جسے ۃفنی ابو یوسفؓ کتاب الامارات میں، امام دارقطنیؓ اپنی السنن (ج 1 ص 33 طبع ہند) میں، امام بحقیؓ اسن المکبری (ج 1 ص 63) اور علامہ الخوارزمی جامع المسانید (ج 1 ص 234) میں، "ابو حنیفہ عن

حاشیہ صفحہ گزارشہ

(1) خطیب بغدادی نے یہ قول حسب ذیل سند سے بیان کیا ہے۔ "أَخْبَرَ فِي أَبْنَى الْفَضْلِ أَخْبَرَنِي دَعْلَمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَهِيمُ بْنُ مُقْرِنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ" اس سند کے سب راوی تقدیر اور عادل ہیں۔ ابن المقریؓ محمد بن عبد اللہ بن یزید ہیں۔ حافظ الحلبیؓ فرماتے ہیں۔ "فَهَذَا مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِ" کہ وہ بالاتفاق تقدیر ہیں۔ (تحذیب ج 9 ص 284 تقریب ص 456)

محمود بن غیلان بھی تقدیر صحیح بخاری اور مسلم کے راوی ہیں۔ (تحذیب ج 10 ص 64۔ سیر اعلام النبلاء ج 12 ص 223۔ تذكرة الحفاظ ج 2 ص 475) باقی اگلے صفحہ پر

خالد بن مقرئ عن عبد خیر عن علیؑ کے طریق سے لائے ہیں۔ جس میں "صحیح رائیہ ثلاثاً"

### حاشیہ صفحہ گذشتہ

احمد بن علیؑ الابار بھی ثقہ امام تھا جو حافظ ہیں سادیکیتے۔ تاریخ بغداد ج 4 ص 306۔ الی  
ج 13 ص 443۔ تذکرہ ج 2 ص 639 وغیرہ

وعلیؑ بن احمد مشہور ثقہ محدث اور فقیہ ہیں امام حاکمؓ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے زمانے  
میں اہل حدیث کے شیخ تھے۔ (السرج 16 ص 30 تاریخ بغداد ج 8 ص 387 تذکرہ ج  
ص 3 ص 881 وغیرہ)۔ ابن الفضل، محمد بن الحسین بن محمد بن الفضل البغدادی القطان ہیں امام تیہقی  
اور خطیب کے مشہور استاد ہیں امام ذہنیؓ نے کہا ہے کہ وہ بالاتفاق ثقہ ہیں۔ السیر ج 17  
ص 331۔ تاریخ بغداد ج 2 ص 246 وغیرہ۔ اس سند کے راوی سب ثقہ ہیں مگر ابن المقریؑ کا  
امام ابوحنیفہ سے سماں محل نظر ہے۔ امام ابن عدیؓ نے یہی قول عبد اللہ بن عبد العزیز سے بواسطہ  
 محمود بن غیلان شاالمقریؑ بیان کیا ہے۔ بلکہ امام ترمذی نے بھی اسے محمود بن غیلان سے روایت  
کیا اور "سمعت المقریؑ" ہی کہا ہے۔ (العلل الکبیر ج 2 ص 966) گویا محمود بن غیلان نے  
 اس روایت کو ابن المقریؑ سے نہیں بلکہ ان کے باپ عبد اللہ بن یزید المقریؑ سے بیان کیا  
 ہے۔ اور عبد اللہ بن یزید مشہور محدث امام بخاری کے استاد اور ثقہ امام ہیں۔ تہذیب (ج 6  
 ص 83) السیر (ج 10 ص 166) وغیرہ۔

امام ابن عدیؓ نے یہی قول احمد بن محمد بن سعید شا محمد بن عبد اللہ بن سلیمان شا، سلمہ  
بن شیب شاالمقریؑ کے واسطہ سے بھی بیان کیا ہے۔ اور یہ سند بھی حسن ہے۔  
سلمہ بن شیب ایسا بوری ثقہ ہیں۔ تہذیب (ج 4 ص 146) وغیرہ۔ کامل میں سلمہ کی  
بجائے مسلمتہ غلط ہے اور تصحیف ہے۔ محمد بن عبد اللہ بن سلیمان کوفہ کے مشہور ثقہ  
محدث ہیں۔ السیر (ج 14 ص 41) وغیرہ، احمد بن محمد بن سعید ابن عقدہ ہیں جو مشہور  
حافظ المحدث ہیں مگر بعض نے ان پر کلام کیا ہے اور بعض نے "شقہ" المیر (ج 15 ص  
340) تاریخ بغداد (ج 5 ص 14) لسان (ج 1 ص 263) وغیرہ۔

مگر وہ اس روایت میں منفرد نہیں۔ بہر حال امام المقریؑ سے یہ روایت بسند صحیح ثابت  
 ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

کے الفاظ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکاسح تین بار کیا۔ علامہ الخوارزمی نے لکھا ہے کہ امام صاحب سے یہ الفاظ کی بن ابراہیم، اسحاق بن الازرق، عبد الحمید المدائی، ابو یوسف، حسن بن زیاد، حسن بن فرات، سعید بن الی الجنم، ایوب بن ہانی نے بیان کئے ہیں۔ مگر اسی روایت کے بارے میں امام دارقطنی نے کہا ہے کہ۔

”امام ابو حنیفہ“ اسے یوں ہی ”صحح رأسه ثلثاً“ کے الفاظ سے روایت کرتے ہیں مگر حفاظت کی ایک جماعت نے ان کی مخالفت کی ہے۔ چنانچہ زائدہ بن قدامہ سفیان ثوری شعبہ، ابو عوانہ، شریک، ابو الاشب، جعفر بن الحارث، ہارون بن سعد، جعفر بن محمد، حجاج بن ارطاط، امان بن تغلب، علی بن صالح، حازم بن ابراہیم، حسن بن صالح، جعفر الاحمر اسے صحح رأسہ مرتبہ کے الفاظ سے بیان کرتے ہیں ”مثلاً“ کا لفظ ابو حنیفہ کے علاوہ اور کسی نے استعمال نہیں کیا۔

(السنن صفحہ 33 ج 1 نسب الرایہ، ج 1 صفحہ 33)

مولانا عبدالحق لکھنؤی کے الفاظ آپ پڑھ آئے ہیں کہ تین بار صحح راس کی روایات ہمارے اصحاب کے نزدیک ضعیف ہیں۔ علامہ زیلیق بھی امام دارقطنی کے اس نقد پر خاموش ہیں۔ خود علامہ لکھنؤی اسی روایت کے بارے میں لکھتے ہیں۔

”واما روایۃ دارقطنی فقد خدشہ هو بانہ لم یرد المسح ثلثاً تغیرابی

حنیفۃ و خالفة جماعتہ من الثقات“ (السعایہ ج 1 صفحہ 134)

”مگر سنن دارقطنی کی روایت کے باعے میں خود امام دارقطنی نے اس پر یہ عیب لگایا ہے کہ ابو حنیفہ کے علاوہ ”مثلاً“ کا لفظ کسی نے نہیں کما اور ایک ثقہ جماعت نے ان کی مخالفت کی ہے۔“

انصار شرط ہے کہ امام صاحب تو اس حدیث میں ”مثلاً“ کا ذکر کرتے ہیں اور کہا یہ گیا ہے کہ وہ وہی روایت بیان کرتے ہیں جو روز ملائی سے روز ادا تک یاد ہوتی ہے تھلایا جائے کیا ان کے یہ الفاظ صحیح تسلیم کر لئے جائیں؟ کیا ان کے مطابق خود ان کا اور ان کے تبعین کا عمل ہے؟ اور جب یہ روایت خود علماء احتجاف کے نزدیک ضعیف ہے تو تھلایا جائے یہ ضعیف کیوں ہے؟ کونسا راوی کمزور ہے۔ راوی سب ثقہ ہیں تو کیا واقعی یہ شاذ

ہے؟ کیا نہیں خود ان سے خارجہ بن مصعب اور الجارود بن یزید بھی ”مسنج رأسه مرۃ واحدة“ کے الفاظ بھی بیان کرتے ہیں۔ (جامع المسانید ج ۱ ص 235-236)

لذا دونوں میں سے کونا لفظ حفظ اور کونا مردود ہے اور کیا جو روایت اول تا آخر یاد اور حفظ ہو اس کی کی صورت ہوتی ہے؟

(2) قاضی ابو یوسف<sup>ؓ</sup>، امام ابو حنفیہ<sup>ؓ</sup> سے بواسطہ طلحہ، ابراہیم نجحی<sup>ؓ</sup> سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا۔

”ترفع الایدی فی سبع مواطن فی افتتاح الصلاۃ وافتتاح القنوت فی الوتو، وفی العیدین، وعند استلام الحجر، وعلی الصفا والمروة، وعرفات، وجمع، وعند الجرتین،“  
(کتاب الأثار صفحہ 21)

کیا روایت معمول اختلاف الفاظ سے امام طحاوی<sup>ؓ</sup> نے شرح معانی الأثار، ج ۱ صفحہ 176 (طبع مصر) میں بھی نقل کی ہے مگر حسن<sup>ؓ</sup> بن زیاد اللووی کی روایت امام ابو حنفیہ<sup>ؓ</sup> سے ان الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

”لَا ترفع الایدی الافی سبع مواطن فی افتتاح الصلاۃ وفی العیدین، وعند استلام الحجر وعلی الصفا والمروة، وبجمع، وعند رمي الجمار،“ (مسند الخوارزمی، ج ۱ ص 353)  
اسنادی اور معنوی اعتبار سے اس اثر کی پوزیشن کیا ہے اس ساری تفصیل سے قلع نظر ہمیں یہاں یہ عرض کرتا ہے کہ امام ابو حنفیہ<sup>ؓ</sup> سے یہ اثر جو کتاب الأثار اور طحاوی میں موجود ہے اس میں ”ترفع الایدی“ اخْ<sup>ؓ</sup> کے الفاظ ہیں۔ مگر حسن<sup>ؓ</sup> بن زیاد کی روایت میں ”لَا ترفع الایدی“ اخْ<sup>ؓ</sup> ہیں۔ اور دونوں میں فرق ہیں۔ ہانیا دونوں میں ”سبع مواطن“ یعنی سات مقامات کا بیان ہے، جماں رفع الایدیں کا ذکر ہے مگر کتاب الأثار اور طحاوی میں قاضی ابو یوسف کی روایت میں سات کی بجائے نو مقامات کا ذکر ہے جبکہ حسن<sup>ؓ</sup> کی روایت میں ”قوت“ اور ”عرفات“ کا ذکر نہیں اور مقامات سات کا ذکر ہے۔ اب اس کا فیصلہ تو علائے اهمیت ہی کر سکتے ہیں کہ دونوں میں صحیح کونے الفاظ ہیں اور امام صاحب کو کن الفاظ سے یہ روایت یاد تھی؟

(3) اسی طرح امام محمد<sup>ؓ</sup>، امام ابو حنفیہ<sup>ؓ</sup> سے ایک اثر ”تماد عن ابراہیم“ کے واسطے سے یوں بیان کرتے ہیں۔

”ان عمر بن الخطاب احمد اصحابہ فی الصیح فقرأً بہم فی الرکعۃ  
الاولی بقل یا ایحہ الکافرون، وفی الثانية لا یلaf قریش۔ (الآثار  
صفحہ 38 منہ الخوارزمی، ج ۱ ص 323)

”کہ حضرت عمرؓ نے صحابہ کرام کو صبح کی نماز پڑھائی تو پہلی  
رکعت میں قل یا اسمہ الکافرون اور دوسری رکعت میں لا یلaf  
قریش پڑھی“

گرائی سند سے قاضی ابو یوسفؓ نے الفاظ یوں بیان کئے  
ہیں۔

”ان عَمِّراً مُهْمَرَ فِي الظَّهَرِ بِسَبْنِي فَقَرَأَ بِهِمْ وَالْتَّيْنَ وَالْزَيْتُونَ وَقَلَ  
يَا يَهَا الْكَافِرُونَ۔“ (الآثار صفحہ 47)

”کہ منی میں حضرت عمر نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ تو اس  
میں واتین اور قل یا اسمہ الکافرون پڑھی“

چلنے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ واقعہ میں تعدد ہو گا مگر کتاب الآثار امام محمد میں وارد شدہ  
الفاظ کی روشنی میں کیا نماز میں قرآن پاک کی ترتیب کے بر عکس پڑھنا جائز ہے؟ اس اثر  
سے جواز ثابت ہوتا ہے مگر علمائے احتجاف اس کے قائل نہیں، آخر کیوں؟ امام صاحبؒ  
الفاظ روایت کو خوب یاد رکھنے والے ہیں مگر ہمارا اصل حقیقت کوئی ہے اور نتوی اس کے  
بر عکس کہا ہے؟

(۴) اسی طرح امام محمدؒ نے امام ابو حنیفہؓ سے روایت بیان کی ہے کہ۔

”اخبرني رجل عن الحسن عن عمر بن الخطاب انه قال الا با حنق

بالصلة على الميت من الزوج (الآثار صفحہ 53)

”کہ مجھے ایک آدمی نے حنون بھری سے روایت بیان کی کہ  
حضرت عمرؓ نے کما خاوند کی نسبت باپ میت پر جنازہ پڑھانے کا زیادہ  
حنون دار ہے۔“

لیکن اثر قاضی ابو یوسفؓ نے کتاب الآثار (صفحہ 80) میں بیان کیا ہے مگر ہمارا حضرت  
عمرؓ کا ذکر نہیں اور ”رجل“ کی بجائے ”من حدثه“ کے الفاظ ہیں۔ سند کے اس معمول

اختلاف کی کوئی حیثیت نہیں۔ ضعف سند سے قطع نظر سوال یہ ہے کہ یہ قول حضرت عمر کا ہے یا حسنؓ بصری کا؟ بظاہر تائید قاضی ابو یوسفؓ کی ہوتی ہے کیونکہ مصنف ابن الیثیر (ج 3 ص 363) میں یہی اثر ”ابن علیہ عن یونس“ کے طریق سے حضرت حسنؓ نے سے مروی ہے حضرت عمرؓ سے نہیں۔ بتایا جائے کہ الاہار امام محمد میں ”عن عمر بن الخطاب کا اضافہ کس کا ہے؟ امام ابو حنیفہ“ کے ہاں تو الفاظ کے حفظ و ضبط کا بڑا شدید اهتمام تھا۔

یہ اور اسی طرح کی دیگر روایات کی تحقیق و تشییع سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر امام صاحب کے ہاں حفظ و ضبط کی یہ شرط تسلیم کر لی جائے تو ان کی روایات سے متريع ہوتا ہے کہ وہ اس پر قائم نہیں رہ سکے، محدثین نے انہیں سنی الحفظ اور کثیر النطہ قرار دیا ہے جس کی ضروری تفصیل ہماری کتاب ”توضیح الكلام فی وجوب القراءة خلف الامام“ ج 2 میں دیکھی جا سکتی ہے بلکہ خود ان کا اپنا اعتراف بھی اسی کا مودع ہے۔ جیسا کہ ہم تاریخ بغداد کے حوالہ سے نقل کر آئے ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ اس اصولی اختلاف کی بنا پر دوسرے محدثین سے امام صاحب کا اختلاف لازمی ہے مخفی۔

دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے  
سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس ”اصول“ کی زد کتنے سائل پر پڑتی ہے۔  
کاش اس کی ایک دو مثالیں ہی بیان کر دی جاتیں۔ یقین جانیئے فقہائے کرام کے اختلافات  
میں اس اصول کا کوئی اثر نہیں۔

## امام صاحب اور حنفی اصول؟

مولانا قاسی صاحب لکھتے ہیں:

”صحیت حدیث کی شرطوں سے قطع نظر ائمہ احتجاف نے خبر واحد کے قابل استدلال ہونے کے لئے چند مزید شرطیں لگائی ہیں۔ مولانا ظفر احمد تھانوی نے ان کا خلاصہ ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ صحیح حدیث نہ قرآن کی قطعی الدلالہ آیات کے خلاف، نہ سنت مشورہ کے، نیز صدر اول میں اس سے اعراض نہ کیا گیا ہو، نہ وہ صدر اول میں متروک العمل رہی ہو، نہ ہی وہ عموم بلوی والے مسئلے میں خبر شاذ ہو۔ ہمارے حنفی اصولوں نے ہمیں ان شرطوں کے بارے میں

دلیل پیش کرنے سے بے نیاز کر دیا ہے۔ ”ملفحا“

(بینات ص ۱۹۔ ۲۰ جنوری ۱۹۹۰ء)

قارئین کرام غور فرمائیں کہ ان حنفی اصولوں کی صحت و ستم سے قطع نظر ان حنفی اصولوں کا تعلق ائمہ اربعہ کے اختلافات سے کیا ہے؟ کیا یہ اصول امام ابو حنیفہ سے منقول ہیں؟

علامہ شبیل نعمانی لکھتے ہیں :-

”اصول فتنہ میں امام ابو حنیفہ وغیرہ کے جو اصول مذکور ہیں وہ اسی قسم کی صورتوں سے مستبط کئے گئے ہیں ورنہ ان بزرگوں سے صراحت“ یہ قاعدے کہیں منقول نہیں۔“

(الفاروق ۵۳۲) مہریہ چلسنگ کراجی

یہی بات بڑی وضاحت سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے فرمائی ہے، لکھتے ہیں :-

”انی وجدت بعضهم یزعم ان بناء الخلاف بین ابی حنیفة و الشافعی رحمہما اللہ علی هذہ الاصول المذکورة فی كتاب البزدوى و نحوه و انسنا الحق ان اکثرها اصول مخرجة على قولى..... و انه لا تصح بهار دایۃ عن ابی حنیفة و صاحبیه“

(بجۃ اللہ - ج ۱ ص ۲۰۔ الانصاف ص ۵۹)

”یعنی میں نے بعض کو دیکھا وہ خیال کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعیؒ کے مابین اختلاف کا سبب وہ اصول ہیں جو اصول بزدوی اور اس طرح کی دوسری کتابوں میں ہیں۔ حق بات یہ ہے ان میں اکثر اصول ان کے اقوال سے مستبط ہیں اور ان کی روایت امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ سے صحیح نہیں۔“

لہذا جب ان اصولوں کی نسبت ہی ائمہ احتجاف کی طرف صحیح نہیں، تو انہیں

فقہاء کے اختلافات کا سبب قرار دینا کماں کا انصاف ہے۔ شیخ محمد عوامہ غالب "اس حقیقت سے آکا ہے اس لئے انہوں نے ان ختنی اصولوں کی طرف قطعاً" کوئی اشارہ نہیں کیا۔

## ضعیف حدیث کا حکم

مولانا قاسمی صاحب لکھتے ہیں :-

"حدیث ضعیف کی محیت کے بارے میں اختلاف ہے جسور علمائے امت چند شرطوں کے ساتھ فضائل اعمال و مستحبات کا اثبات درست قرار دیتے ہیں اور احکام شرعیہ کے مسائل میں حدیث ضعیف کا قابل استدلال ہونا مختلف فیہ ہے۔ امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہم احادیث ضعیفہ سے بھی استدلال کرتے ہیں اور قیاس پر حدیث ضعیف کو ترجیح دیتے ہیں، محدثین میں سے امام ابو داؤد، نسائی، ابن الہی حاتم کا بھی یہی مسلک ہے۔ لیکن یہ لوگ حدیث ضعیف کے قابل استدلال ہونے کی دو شرطیں لگاتے ہیں (۱) اس کا ضعف شدید نہ ہو (۲) اس مسئلہ میں حدیث ضعیف کے سوا اور کوئی حدیث نہ پائی جائے" (بینات ص ۲۰ جنوری)

ضعیف حدیث کا کیا حکم ہے اور اس کے متعلق صحیح اور راجح پہلو کونسا ہے۔ اس تفصیل کی بیانات غنیماً نہیں۔ البته زیر بحث مسئلہ میں ضعیف حدیث کی محیت کے بارے میں ائمہ کے اختلاف سے مقصود غالباً یہ ہے کہ فقہاء کے مابین اختلاف کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ وغیرہ ضعیف احادیث سے احکام شرعیہ میں استدلال کے قابل ہیں بشرطیکہ ضعف شدید نہ ہو اور اس مسئلہ میں اور کوئی حدیث بھی نہ ہو۔ یہی بات شیخ محمد عوامہ نے "اثر الحدیث الشریف" (ص ۲۶-۲۷) میں کہی ہے بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ امام ابن حزم کا بھی یہی مسلک ہے (المحلی، ج ۲ ص ۳۸۸) اور امام شافعیؓ بھی مرسل حدیث کو ضعیف کرنے کے باوجود اس نے استدلال کے قابل ہیں۔ (فتح المغیث للخواجی، ج ۱ ص ۸۰، ۲۶۲، ۲۶۸)

قابل غور یہ بات ہے کہ جب امام ابو حنیفہ امام مالک امام احمد ضعیف حدیث سے احکام شرعیہ میں استدلال کے قابل ہیں بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ امام شافعیؓ اور

ابن حزم "بھی اسی کے قائل ہیں تو پھر اس کو یہاں "اختلاف فقہاء" کے اسباب میں ذکر کرنا بے محل ہے۔ تجуб ہے کہ ایک طرف یہ حضرات امام بخاری "امام مسلم" امام تیمی بن معین وغیرہ کو جو ضعیف حدیث کی محیت کے قائل نہیں۔ مجتہدین، فقہائے امت اور ائمہ متبویین میں شمار کرنے کے لئے تیار نہیں مگر دوسری طرف انہی کو فرقہ بنانے کے اختلافات کے اسباب میں ان کے موقف کو پیش کر کے سادہ لوح قارئین کو باور کرایا جاتا ہے کہ اختلاف کا ایک سبب یہ بھی ہے:-  
مولانا قاسمی اور شیخ محمد عوامہ نے یہ بات بھی عجیب کی کہ:-

"اگر صحیح حدیث کے لفظ میں دو احتمال ہوں تو ضعیف حدیث ایک معنی کی ترجیح کا فائدہ دیتی ہے اس اعتبار سے ہمارے فقہاء کی نظر میں احادیث ضعیفہ کی بڑی قدر و قیمت ہے اس لئے دور حاضر میں جو لوگ دین کی خدمت کے عنوان سے احادیث ضعیفہ اور احادیث موضوعہ دونوں کو ایک پڑے میں قول کر سب کو ایک ساتھ دریا برد کرنا چاہتے ہیں وہ بڑی غلطی پر ہیں۔"

(بینات ص ۲۱ جنوری، اثر الحدیث الشریف ص ۲۸)

محتمل المعنین کی تعین کے لئے ضعیف حدیث سے استفادہ بجا لیکن احادیث ضعیفہ اور موضوعہ کو ایک ہی پڑے میں قول کر دیا برد کرنے کی بات بڑی مضمکہ خیز ہے۔ ان حضرات کو دراصل تکلیف یہ ہے کہ علامہ ناصر الدین البانی حفظہ اللہ نے "سلسلۃ الاحادیث الفعینہ والموضوعہ واشرحا السی فی الامّۃ" کو مرتب ہی کیوں کیا ہے۔ علامہ موصوف کے پیش نظر چونکہ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ کتب فقه میں جن احادیث ضعیفہ اور موضوعہ سے استدلال کیا گیا ہے، ان کی حقیقت بیان کر دی جائے (مقدمہ سلسلۃ الفعینہ ج ۲) اور فقہاء کے استدلال کی کمزوری واضح کر دی جائے۔ بس یہی وہ اصل سبب ہے جس کی بناء پر یہ حضرات اس "سلسلہ" کی مخالفت پر اتر آئے ہیں۔ پھر جب علامہ البانی حفظہ اللہ نے ان روایات کے بارے میں ضعیف، ضعیف جدا، مکر، باطل، موضوع، لا اصل لہ، لا سمع۔ لا اصل لہ مرفوعاً" کے الفاظ سے ان کی حیثیت بیان کی ہے تو پھر ضعیف کو ایک ہی پڑے میں تولنے کے کیا معنی؟ غور کجھے اس کے بال مقابل انہوں نے سلسلۃ الاحادیث انسوخیۃ میں حسن احادیث کو بھی

درج کیا ہے تو کیا وہاں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ "سلسلۃ الحجۃ" میں صحیح اور حسن کو ایک ہی پڑے میں ڈال دیا گیا ہے؟ جب انہوں نے قابل استدلال اور ناقابل استدلال احادیث کو دو علیحدہ حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور درجہ و مرتبہ کے اعتبار سے ان کی پوزیشن بھی بیان کر دی ہے تو پھر ایک ہی پڑے میں تولنے کی بات محض ان کے خلاف حد و بغض کا نتیجہ ہے۔

ضعیف حدیث کے بارے میں حد سے زیادہ جو نرم کوشہ ان حضرات کے ول میں پایا جاتا ہے اسی کی بنا پر یہ حضرات بڑی دلیری سے اس سے استدلال کرتے ہیں اور فضائل اعمال میں موضوع اور باطل روایت مخف ضعیف کہہ رسارا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اندازہ سمجھئے کہ علامہ لکھنؤیؒ نے الاجوہۃ الفاضلة میں ضعیف حدیث پر بحث کے دوران میں علامہ علی قاریؒ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے "الخط الداوفرنی العج العج الاکبر" میں حدیث "أفضل الایام يوم عرفة و اذا وافق يوم الجمعة افضل من سبعين حج" ، نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ بعض محدثین نے جو اسے ضعیف کہا ہے تو اس سے اصل مقصود پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیونکہ ضعیف حدیث فضائل ایل میں معتبر ہے (الاجوہۃ الفاضلة ص ۲۷) علامہ لکھنؤیؒ س پر بالکل خامہ شی سے گزر گئے و راس کے کوڑی المشرب حنفی المُلک عُثْمَانْ استاذ ابوغده نے بھی اپنے طبقہ تحقیق کے بر عکس یہاں خاموٹھ ہی میں عافیت سمجھی حالانکہ یہ حدیث ضعیف نہیں بلکہ بے اصل اور باطل ہے۔

حافظ ابن قیمؓ لکھتے ہیں :-

"باطل لا اصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن

احد من الصحابة والتابعين ."(ادالمعاد - ج ۱ ص ۱۳)

اس قسم کی تی بے اصل اور موضوع روایات ہیں جنہیں فضائل میں محض ضعیف کہہ کر قبول کر لیا گیا ہے۔ علامہ البانی مدظلہ نے اپنے "سلسلہ" میں ان حقیقتوں سے پر وہ اٹھایا ہے اسی بنا پر ان حضرات کو یہ "سلسلہ" ایک نظر نہیں بھاتا جبکہ عالم اسلام ان کی اس کاوش پر ان کا ممنون احسان ہے اور اسے تحسین کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ان کی تحقیق سے اختلاف ممکن ہے لیکن اس کی افادت کا انکار محض

عصبیت پر منی ہے۔

### ایک وضاحت

شیخ محمد عوامہ نے اسی بحث کے دوران میں بعض اور "نکات" کا تذکرہ بھی کیا ہے جسے مولانا قاسی نے نظر انداز کر دیا ہے۔ ہم بھی ان سے صرف نظر کرتے ہیں۔ اہل علم ان بھول محلیوں سے واقف اور فرمی جدیاتی انداز سے باخبر ہیں۔ اس لئے ہم یہاں اس کی چند اس ضرورت محسوس نہیں کرتے۔

### اختلاف کا دوسرا سبب

امیرہ مادین اور سلف کے اختلافات کا ایک سبب فرم حديث میں ان کا اختلاف ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اختلاف کے اسباب میں ایک سبب بھی عدم معرفتہ بدلالۃ الحديث "شار کیا ہے اور اسے کے وجہہ اسباب کو خوب تفصیل سے بیان کیا ہے۔ شیخ محمد عوامہ لکھتے ہیں۔ یہ اختلاف دو اعتبار سے ہوتا ہے۔

- (1) الفاظ حديث کی تفسیر اور اور اک کے مختلف ہونے کی بناء پر۔
- (2) حديث کا مختلف معانی کے محتمل ہونے کی بناء پر۔

(اثر الحدیث الشریف ص 85)

مولانا قاسی صاحب نے بجا رپر صحیح لکھا ہے۔

"کتب حدیث و فقہ کے مطالعہ کے دوران ہمارے سامنے اس کی بے شمار مثالیں آتی رہتی ہیں اس لئے اس سبب پر زیادہ روشن ڈالنے کی ضرورت نہیں" (بینات ص 21 جنوری)

ہم بھی مولانا قاسی کے فرمان کے مطابق اس کی تذییل میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ البتہ شیخ محمد عوامہ نے اپنے نفسی میلانات کے پیش نظر پلے سبب کی وضاحت میں حضرت امام ابوحنیفہ کے تفہیہ اور احادیث کے مفہوم و معانی کو سمجھنے کے بارے میں جو مثالیں پیش کی ہیں ان کے بارے میں یہ وضاحت کرونا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں۔ نہیں نہ امام صاحب کے تفہیہ کا انکار ہے نہ ان کی عظمت ہی کا۔ مگر یہ بات بر ملا کرنے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتے کو ان کو "برا" بنانے اور ثابت کرنے میں بعض وضاع اور کذاب

راویوں نے جو کردار ادا کیا۔ تاریخ میں اس کی مثال اگر ملتی ہے تو وہ حضرت علیؑ اور رافضیوں کی ہے۔ حضرت علیؑ اور امام ابوحنفۃؓ کے بارے میں جس قدر غلو کا مظاہرہ کیا گیا اور انہیں بڑا ہنانے میں ان کے نادان ہمنواوں نے جس قدر موضوع اور بے اصل قصے وضع کئے اس کا کوئی طالب علم انکار نہیں کر سکتا۔ افسوس کہ انہی بے سروپا قصوں اور کہانیوں میں سے کچھ کاتزہ بلا تامل شیخ محمد عوامہ نے بھی کیا اور ان کی اسنادی حیثیت کے بارے میں ”روایتی قیہوں“ کا ساکردار کیا۔

## فقہاء کی شان میں من گھڑت قصے کہانیاں

چنانچہ پہلے قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ”امام ابوحنفۃؓ امام سلیمان بن میران الا عمش“ کے پاس بیٹھنے تھے کہ امام صاحبؓ سے ایک سئلہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا۔ امام الا عمشؓ نے پوچھا آپ نے یہ جواب کس دلیل کی بنا پر دیا ہے۔ تو امام صاحبؓ نے فرمایا آپ ہی نے تو ہمیں ابوصالح عن ابی هریرۃ، ابو دائل عن عبد اللہ بن مسعود، و عن ابی ایاس عن ابی مسعود الانصاری سے یہ حدیث سنائی ہے کہ ”من دل علی خیر کان لد مثل اجر عملہ“۔ ”کہ جس نے بھلائی پر توجہ دلائی اسے عمل کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا“ اور آپ ہی نے ابوصالح عن ابی هریرۃ سے فلال اور حکم عن ابی الحكم عن حدیفۃ سے اور ابوصالح عن ابی هریرۃ سے اور ابوالزبیر عن جابر سے اور یزید الرقاشی عن انس سے مرفوعاً حدیث سنائی ہے۔ امام الا عمشؓ نے کہا اے فقہاء کی جماعت تم اطباء اور ہم پنساری ہیں۔“ (اثر الحدیث الشریف ص 86)

یہ قصہ ملا علی قاریؓ کی ”مناقب الامام ابی حنفۃؓ“ سے نقل کیا گیا ہے جو الجواہرالمذیہ کے ساتھ محق ہے۔ ملاحظہ ہو (الجواہر ج 2 ص 484) ملا علی قاریؓ نے اس کی سند یا حوالہ کا قطعاً ذکر نہیں کیا اور تیج بسیار کے باوجود اس کی کوئی سند اس عاجز کی نظر سے نہیں گزری۔ البتہ اسی نوعیت کا ایک قصہ قاضی الصیریؓ کی ”مناقب ابی حنفہ واصحابہ“ ص 13 میں منقول ہے جسے خطیب بغدادی نے الفقیہ المتفق (ج 2 ص 84) میں بھی نقل کیا ہے۔ اس کے الفاظ ہیں۔

”وانت حدثت اعن ابراهیم کذا وحدثت اعن الشعبي کذا“

یہ سن کر امام الا عمشؓ نے کہا۔ ”یا محدث الفقهاء و استمر الاطباء و محن الصيادلة“

اے فقماء کی جماعت تم طبیب اور ہم پنساری (دوا فروش) ہیں۔ مگر اس کا مدار احمد بن محمد بن الصلت بن المغلس الحمانی پر ہے، جسے بعض تدليس کر کے احمد بن عطیہ بھی کہتے ہیں اور وہ سخت ضعیف بلکہ کذاب ہے۔ امام ابن عدیؓ فرماتے ہیں، میں نے کذابوں میں اس سے زیادہ بے حیا کسی کو نہیں دیکھا۔ کاتبوں سے کتابیں انھا کر لے جاتا اور جن روایوں کا ان میں نام ہوتا ان سے روایت لیتا اور اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ وہ کب فوت ہوا اور کیا راوی مروی عنہ کی وفات سے پہلے پیدا بھی ہوا ہے یا نہیں۔ ابن حبانؓ فرماتے ہیں وہ حدیثیں وضع کرتا تھا۔ میں نے اسے دیکھا کہ وہ ان سے حدیثیں بیان کرتا تھا۔ جن سے اس نے سنا بھی نہیں ہوتا تھا۔ امام دارقطنیؓ فرماتے ہیں وہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ حافظ عبد الباقی بن قانع فرماتے ہیں وہ ثقہ نہیں۔ ابن الیفوارسؓ، امام حاکمؓ وغیرہ نے کہا ہے کہ وہ کذاب اور وضع ہے۔ خطیب بغدادیؓ فرماتے ہیں اس نے ثابتؓ بن محمد اور ابو حییمؓ وغیرہ سے روایتیں لی ہیں جو اکثر باطل ہیں جنہیں اس نے خود گھڑا ہے۔ حافظ ابن حجرؓ فرماتے ہیں اس کی روایات منکر اور باطل ہیں۔

(الکامل لابن عدی، ج 1 ص 202، لسان، ج 1 ص 270 - 271 271 تاریخ بغداد ج 5 ص

104 ج 4 ص 207 ۱۰ الشعفاء لابن الجوزی ج ۱ ص ۸۶ ۱ الجزویین۔ ج ۱ ص (153)

اب اس کا فیصلہ تو قارئین کرام بسانی کر سکتے ہیں کہ ایسے کذاب اور وضع کے بیان کردہ واقعہ کی حیثیت کیا ہوگی۔ اسی احمد الحمانی کو علمائے احتجاف نے ”خفی اکابرین“ میں شمار کیا ہے۔ علامہ عبد القادر القرشی نے ”الجواہر المضنية فی طبقات الحنفیة“ ج ۱ ص 69 میں اس کا ترجمہ لکھا ہے مگر حق خفیت ادا کرتے ہوئے ائمہ تقدیم کا کوئی قول نقل نہیں کیا اور لطف یہ کہ کسی سے اس کی توثیق بھی نقل نہیں کر سکے۔ اسی الحمانی نے ”مناقب الی خفیة“ کے نام سے مستقل کتاب لکھی جس کے بارے میں امام دارقطنیؓ فرماتے ہیں وہ تمام کی تمام موضوع روایات اور قصوں پر مبنی ہے جنہیں حمانی نے خود وضع کیا ہے۔ قاضی السیدیؓ اور موفق کی ”المناقب“ کی اکثر ویژت روایات کا مأخذ یہی ہے۔

علامہ ابن عبد البرؓ نے اسی نوعیت کا ایک واقعہ جامع بیان العلم ج 2 ص 131 میں ذکر کیا ہے لیکن اس کی سند بھی ضعیف ہے چنانچہ اس میں ابراہیم بن عثمان بن سعید مجھول ہے (لسان ج ۱ ص 85) اس کے استاد علان بن المغیرہ کا ترجمہ کوشش کے باوجود کہیں نہیں

ملا۔ اس کے ایک راوی محمد بن القاسم بن شعبان المالکی پر ابن حزم نے کلام کیا ہے۔ قاضی عیاض ”نے لکھا ہے اس کی کتابوں میں غائب اور شاذ اقوال ہیں۔ (السان ج ۵ ص ۳۴۸، السیرج ۱۶ ص ۷۸، ترتیب الدارک ج ۳ ص ۲۹۴)

اسی طرح اسی نوعیت کا ایک واقعہ امام ائمہ ”اور قاضی ابو یوسف“ کے مابین بیان کیا جاتا ہے جسے علامہ ابن عبد البر نے الجامع، ج ۲ ص ۱۳۱، ۱۳۲ میں ”خطیب“ نے تاریخ بغداد ج ۱۴ ص ۴۴۶ میں اور قاضی الصدری ”نے مناقب ص ۹۶ میں ذکر کیا ہے۔ قاضی ابو یوسف ”نے جب یہ کہا کہ یہ جواب آپ ہی کی بیان کردہ حدیث سے ماخوذ ہے تو انہوں نے فرمایا ”یا یعقوب الی لاحفظ هذالحدیث من قبل“ ”اے یعقوب مجھے اس سے پلے یہ حدیث یاد نہیں تھی۔“ یہ تقصہ سند ا” درست ہے۔ حدیث کا یاد نہ رہتا اور بھول جانا ایک بشری تھنا ہے۔ اسی طرح حدیث کی تاویل اور اس کا مفہوم سمجھنے یا نہ سمجھنے میں فرق مراتب بھی خدا داد صلاحیت پر موجود ہے۔ مگر قاضی ابو یوسف ”اور امام ائمہ“ کے واقعہ میں وہ رنگ آمیزی نہیں جو احمد الحماںی وغیرہ جیسے کذاب نے امام ابو حنفہ ”اور ائمہ“ کے واقعہ میں پیدا کر دی ہے

خطیب بغدادی نے الفقیہ والمتقدہ ج ۲ ص ۸۳ میں امام ابو حنفہ کے ”ان واقعہ کو احمد بن عطیہ الحماںی کے علاوہ ایک دوسری سند سے بھی ذکر کیا ہے جس کے راوی ثقة ہیں۔ مگر اس میں بھی وہ رنگ آمیزی نہیں جو علامہ ”علی القاری کی المناقب میں پائی جاتی ہے۔ ہم یہلے عرض کر آئے ہیں کہ علم و عقل، تفہ و تیقظ، معاملہ فنی و فراست اللہ تعالیٰ کی عطاے کردہ صلاحیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی استطاعت کے مطابق ان اوصاف سے نوازا ہے مگر تمام انسان اس میں مساوی نہیں ”وفوق كل ذی سلم علیم“، کا قانون قدرت بہر حال مسلم ہے۔

لیکن اس قسم کے واقعات سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ محدثین فقیہ نہیں ہوتے وہ محض دوا فروش تھے اور پھر اسی بنا پر طبقات کی تقسیم قائم طور پر غلط اور حقیقت واقعی سے بے خبری کی دلیل ہے جس طرح ہر ”راوی حدیث“ اور حدیث لکھنے والے کو محدثین کرام کی فہرست میں شمار کرنا درست نہیں اسی طرح محض مروجہ قسمی متون و شروح کے ماہرین کو فقیہ و عطار قرار دینا صحیح نہیں۔ کیا امام ابو حنفہ ”اور ان کے

تلانہ وغیرہ کا تفقہ میں مرتبہ برابر ہے؟ خطیب بغدادیؒ نے الفقید والمتقدہ اور علامہ ابن عبد البرؑ نے جامع بیان العلم میں اس موضوع پر بڑی نفیس بحث کی ہے اور واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ جب گروہ محدثین کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد ہر راوی حدیث نہیں بلکہ امام مالکؓ امام اوزاعیؓ امام شعبہ امام ثوریؓ امام تیجیؓ بن سعیدقطانؓ امام عبدالرحمٰنؓ بن محمدی امام احمدؓ بن جبل وغیرہ اعیان مراد ہوتے ہیں۔ امام وکیع فرمایا کرتے تھے نوجوانو! حدیث کو خوب سمجھ کر پڑھو یہ اہل الرأی تم پر کسی صورت غالب نہیں آ سکتے، امام ابو حنیفہؓ اپنے فتاویٰ میں جس چیز کے محتاج ہیں ہم اس کے بارے میں کئی احادیث بیان کر سکتے ہیں۔ امام وکیعؓ کا بیان ہے کہ ایک بار مجھے امام ابو حنیفہؓ نے کہا کہ تم حدیث کی بجائے فقہ پر توجہ دو، میں نے کہا کیا حدیث میں فقہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا بھلا بتاؤ کہ اگر عورت حمل کا دعویٰ کرے اور خاوند اس کا انکار کرے تو فیصلہ کیونکر کیا جائے گا؟ میں نے کہا مجھے عبادؓ بن منصور نے عکرمهؓ کے واسطے سے حضرت ابن عباسؓ سے یہ حدیث سنائی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی صورت میں لعان کیا جائے گا۔ یہ سن کر وہ چلے گئے۔ (الفقید والمتقدہ ج ۲ ص ۸۳)

کیا امام بخاریؓ امام تیجیؓ بن آدمؓ امام ابو داؤدؓ تنفیؓ امام ابو عبیدؓ امام یاثؓ امام ابو ثورؓ امام داؤدؓ امام ابراہیم الحربیؓ امام محمد بن نصر مروذیؓ امام ابن حزمیہؓ امام ابن جریر وغیرہم رحمۃ اللہ صرف حدیث تھے فقیہ نہیں؟ لہذا اس مثال کی بنیاد پر قسماء اور محدثین کی تقسیم سراسر لغو اور ایک بے فائدہ شغل ہے۔ محدثین کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں احادیث جمع کرنے کی توفیق بخشی دہاں انہیں تفقہ فی الدین کا ملکہ بھی وافر عطاۓ فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا عبد المُنی لکھنواری مرحوم نے واشگاف الفاظ میں اس حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ

” وَمِنْ نَظَرِ الْأَغْتِسَافِ وَغَاصِنِ فِي بَحَارِ الْفَقَهِ وَالاَصْنَافِ مَجْتَبِيَاً مِنْ ”

الْأَغْتِسَافِ يَعْلَمُ عَلَمًا يَقِينِيَا إِنَّ أَكْثَرَ الْمَسَائلِ الْفَرْعُونِيَّةِ وَالْأَصْلِيَّةِ

الَّتِي اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا فَمَذْهَبُ الْمُحَدِّثِينَ فِيهَا أَقْوَى مِنْ مَذَاهِبِ

غَيْرِهِمْ وَإِنِّي كَلَّا اسْتَيْرُ فِي شَعْبِ الْأَخْتِلَافِ إِحْدَى قَوْلِ الْمُحَدِّثِينَ فِيهِ

قریباً من الانصاف فنه درهم وعدیه شکر هم کیف لا وهم ورثه النبی  
صلی الله علیه وسلم حقاً ونواب شرعه صدق احشرنا الله فی زمرتهم  
واما ننا علی حبهم وسیر هم (امام الكلام ص ۲۱۶)

کہ جس نے بھی نظر انصف سے دیکھا ہے اور فقہ و اصول کے سند رہ میں بے راہ روی سے پچتے ہوئے غوطہ زنی کی ہے وہ یقین طور پر جانتا ہے کہ اکثر وہ فقہی اور اصولی مسائل جن میں اختلاف ہے ان میں محدثین کا موقف دوسرے تمام اقوال سے نمادہ قوی ہے اور میں جب بھی اختلاف کی گھائیوں کی سیر کرتا ہوں وہاں محدثین کے قول کو انصف کے زیادہ قریب پاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے اور وہی انہیں اس کا انعام و اکرام بخشے گا۔ کیوں نہیں جبکہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح وارث ہیں اور آپ کی شریعت کے پے نائب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے زمرہ میں اٹھائے اور ان سے محبت اور ان کے طریقے پر موت عطا فرمائے۔“

محدثین رحمہم اللہ کے تفہی و اجتہاد کے بارے میں بعض مدعاں فقہ کی الزام تراشیوں سے بھی ہم واقف ہیں اور اسی سلسلے میں احمد الحمانی جیسے دروغ گواراویوں کی حکایتوں سے بھی بحد اللہ باخبر ہیں۔ مگر اس تفصیل کی نہ ضرورت ہے نہ ہی اس کی یہاں گنجائش۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ ان حکایات کی بنیاد پر نہ محدثین و قلماء کی یہ تقسیم ورست ہے اور نہ ہی امام ابوحنفیہ اور اہل الرائے کے مقابلہ میں ائمہ محدثین رحمہم اللہ کو دو افروش قرار دینا صحیح ہے۔ شیخ محمد عوامہ نے علامہ علی قاریؒ کے حوالہ سے جو مفصل واقعہ نقل کیا ہے غالب گمان یہی ہے سے یہ بھی احمد الحمانی کی کارستانی ہے پھر یہ بات بجائے خود غور طلب ہے کہ اس واقعہ میں جن روایات کا ذکر ہے وہ کیا امام صاحبؒ کی بند سے انہی الفاظ کے ساتھ منقول ہیں؟ ملا علی قاریؒ نے اس گفتگو کی پہلی روایت جس سند سے ذکر کی ہے وہی بجائے خود اس کہانی کے باطل ہونے کی دلیل ہے چنانچہ اس میں امام ابوحنفیہؒ کے الفاظ یوں ہیں۔

”انت حدشتا عن ابی صالح عن ابی هریرۃ وعن ابی واہل

عن عبد الله زین مسعود، د) عن ابی ایاس عن ابی مسعود

الانصاری انه قال: قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم من دل علی

خیر کان له مثل اجر عملہ۔“

حلالین کے مابین الفاظ کا اضافہ ہم نے خود کیا ہے۔ مناقب کی عبارت میں جھوٹ  
 واضح ہے جسے شیخ محمد عوامہ نے محسوس کیا مگر بلاوضاحت ”عن عبد الله بن مسعود وعن“  
لکھ دیا ہے۔ کویا یہ روایت امام صاحب ”نے امام ائمہ“ سے تین سنوں سے سنی تھی جن  
میں ایک ”عن ابی ایاس عن ابی مسعود الانصاری“ کے طریق سے ہے حالانکہ ابو مسعود  
النصاری کی یہ روایت صحیح مسلم ج 2 ص 137، عبدالرازاق رقم 20054، مشکل الاتارج 1 ص  
484، مند احمد ج 5 ص 274، ابی حبان، الموارد ص 867، جامع بیان  
العلم ج 1 ص 16، ابو داؤد رقم 5129 ترمذی، ج 3 ص 376، بحقیقی ج 9 ص 28، طبرانی ج 17  
ص 27، 228 میں سفیان، شعبہ - معری، عیینی بن یوس، محمد بن عبید، حفص بن غیاث،  
عبد الواحد، ابو معاویہ، فضیل بن عیاض، زائدۃ، شریک، بداللہ بن میر اور ابو اسحاق (یہ  
تمام) امام ائمہ سے، ابو عمرو اشیانی عن ابی مسعود“ کے طریق سے روایت کرتے ہیں۔“  
مناقب“ کی روایت میں ”ابو ایاس“ کون ہے؟ ابو ایاس عبد الملک بن جویہ یا! ایاس جو  
مخیرہ بن مقسم النبی سے روایت کرتا ہے نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ یہ دونوں متاخر ہیں۔  
دیکھئے کتاب الکنی للدولابی ج 1 ص 115 ابو ایاس، معاویہ بن قرۃ البھی نہیں ہو سکتا کیونکہ  
معاویہ کی وفات 113ھ میں ہوئی جب کہ ان کی عمر 76 سال تھی۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ واقعہ  
المحل کے سال پیدا ہوئے (تہذیب، ج 10 ص 217) تو گویا وہ 36 یا 37ھ میں پیدا ہوئے۔  
لہذا جب حضرت ابی مسعود النصاری کا سن وفات 40ھ ہے (تہذیب ج ۲۷ ص 248) تو ابو  
ایاس معاویہ بن قرۃ کی حضرت ابو مسعود سے روایت صحیح نہ: ای۔ تین چار سال کے بچے کا  
سماں عموماً ممکن الوقوع نہیں ہوتا۔ اسی طرح ابو ایاس عامر بن عبدة بھی نہیں ہو سکتا، وہ گو  
حضرت ابن مسعود“ یعنی صحابہ سے روایت کرتے یہی مگر الکنی للدولابی ج 1 ص 115 میں ہے  
کہ امام ائمہ اس سے ایک واسطہ سے روایت کرتے ہیں۔ ”یہودی الاعمشی عن رجل  
عنه“ خیال آتا ہے کہ شاید ”ابو ایاس“ نہیں بلکہ ”ابن ایاس“ ہے کیونکہ ابو عمرو اشیانی  
کا نام سعد بن ایاس ہے۔ کتابت میں ”ابن“ ”ابو“ سے بدل گیا ہو۔ مگر مشکل یہ ہے کہ ”  
سعد بن ایاس“ ابن ایاس سے معروف نہیں۔ بہر حال ثقہت کی ایک جماعت کے خلاف ”ابو  
ایاس“ کے طریق سے یہ روایت ذکر کرنا بجائے خود اس کی کمزوری کی دلیل ہے۔ امام ابو

ضفیہ سے یہی روایت "علقہ بن مرشد عن سلیمان بن بریدۃ عن ابی" کے طریق سے مروی ہے جسے علامہ الخوارزی نے محمد بن الحسن الشیانی، ابو محمد ابخاری، ابن خرسہ، حافظ علوہ بن محمد اور قاضی عمر بن الحسن الاشتری کی مسانید سے جامع المسانید (ج ۴ ص ۲۸۹-۲۹۰ ج ۱ ص ۱۲۰) میں ذکر کیا ہے۔ یہی روایت امام احمد نے مسند میں ذکر کی ہے مگر امام ابو ضفیہ کا نام نہیں لیا۔ الفاظ ہیں۔

"شَا اسْحَقْ بْنُ يُوسُفَ أَنَا أَبُو فَلَانَةَ كَذَا قَالَ أَبِي لَمْ يُسَمِّهُ عَلَى  
عَمْدٍ، وَشَا عَنْيِرَهْ فَسَاهَ يَعْنِي أَبَا حَنِيفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنَ مَرْثَدِ عَنْ  
سَلِيمَانَ بْنَ بَرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ الْخَوَارِزْيِيِّ الْخَوَارِزْيِيِّ (مسند امام احمد ج ۵ ص ۳۵۷) (۱)  
"یعنی امام احمد نے ابو فلانہ کما۔ امام ابو ضفیہ" کا نام عمدًا نہیں  
لیا۔

اس لیے کہ امام احمد انہیں ضعیف قرار دیتے ہیں۔ ملاحظہ ہو  
الضعفاء للعقلی ج ۴ ص ۲۵۸ بغدادی ج ۱۳ ص ۴۱۸  
اسی روایت کو علامہ نشی نے ذکر کرتے ہوئے کہا ہے۔  
"نیہ ضعیف و مع ضعفہ لم یسمیم" (المجموع ج ۱ ص ۱۴۴)  
یعنی "اس میں ضعیف راوی ہے۔ اس کے ضعف کی بنا پر  
اس کا نام نہیں لیا۔"

عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روایت امام صاحب کی مسند میں حضرت بریدۃ سے مروی ہے اگر حضرت ابو ہریرہ، ابو مسعود اور عبد اللہ بن مسعود سے بھی ان کی یہ روایت ہوتی تو علامہ الخوارزی اسے جامع المسانید میں ذکر کرتے جسے انہوں نے امام صاحب کی حمایات کو جمع کرنے والے پندرہ حضرات، کی مسانید سے مرتب کیا ہے۔ خود اس کی مسند کی

(۱) امام احمد کے واسطے سے یہی روایت علامہ الخوارزی نے جامع المسانید ج ۱ ص ۱۲۱ میں ذکر کی ہے۔ مگر بصریت "عن ابی حنیفہ" کما ہے قاضی ابو یوسف اور امام محمد، امام ابو ضفیہ سے سلیمان اور بریدۃ کا واسطہ ذکر نہیں کرتے۔ (جامع المسانید ج ۱ ص ۲۹۰ الٹار لمد ص ۱۹۳) مگر اسحاق اور مصعب بن مقدام اس واسطے کو ذکر کرتے ہیں۔ (تدریج)

اندر وہ شادتیں بھی اس کے بناوی ہونے کی دلیل ہیں۔  
 انی روایات میں آخری روایت "یزید الرقاشی عن النبی" کے طریق سے ہے جس  
 کے الفاظ ہیں۔

"کا د الحسد ان يغلب القدر و کا د الفقر ان يكون كفرا" اخ  
 اور کے معلوم نہیں کہ یزید الرقاشی کو امام نسائی، امام حاکم وغیرہ نے متروک کما  
 ہے۔ امام نسائی نے اس کے بارے میں "لیس بشقة" بھی کہا ہے۔ امام ابن حبان فرماتے  
 ہیں۔ کان یقبل کلام الحسن فیجعله عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ  
 حضرت حن بن بصری کا قول حضرت انسؓ کا نام لے کر مرفوع بیان کر دیا کرتا تھا۔ (تہذیب الحجۃ  
 ۱۱ ص ۳۱۰-۳۱۱) مسند احمد بن مسیح میں یہ روایت ہے "عن الحسن او النبی" کے الفاظ  
 سے ہے مگر الحلیۃ الحجۃ ج ۳ ص ۵۳-۱۰۹، الکامل لابن عدی ج ۷ ص ۲۶۹۲، شعب الایمان ج ۵  
 ص ۲۶۷ وغیرہ میں یہ بغیر شک کے مروی ہے۔ امام ابن حبانؓ کے کلام کی روشنی میں یہی  
 معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت حنؓ کا قول ہے جسے یزید رقاشی حضرت انسؓ سے مرفوعاً بیان  
 کرتا تھا۔ مسند ابن مسیح کی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے بلکہ ابن الابراری وغیرہ نے  
 کہا ہے "کاد" کے ساتھ "ان" کا استعمال کلام عرب میں گو جائز ہے مگر قلیل الاستعمال  
 ہے اور فصاحت کے منافی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو افعع العرب تھے اور یہ کلام  
 کس طرح کہہ سکتے تھے۔ یہ کسی راوی کا کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام  
 نہیں۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو۔ فیض القدير ج ۴ ص ۵۴۲ القاصد الحسن ص ۳۱۱ کشف  
 الخفاء ج ۲ ص ۱۴۱ المغني للعرّاقی علی الاحیاء (ج ۳ ص ۱۸۴)

لہذا جس کا راوی ضعیف بلکہ متروک، اس کا متن فصاحت کے منافی، اس کے  
 ضعف پر علماء کا اتفاق، اس سے امام ابو حنفیہ استدلال کریں۔ مل اسے تلیم کرنے کے  
 لئے تیار نہیں۔ اور اگر اس سے استدلال درست ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ جس روایت سے  
 امام استدلال کرے۔ وہ روایت صحیح ہوگی۔ (اخفاء السکن ص ۱۶) تو تلیم کیجئے یہ  
 روایت ائمہ فن کے فیصلہ کے بر عکس صحیح ہے۔ فصاحت کے منافی بھی نہیں۔ ائمہ نے جو  
 کہا وہ بھی غلط ہے اور یزید الرقاشی بالکل ضعیف نہیں وہ بھی ثقہ اور مددوق ہے۔ نتیجہ  
 واضح ہے کہ ان بے اصولیوں کا تائل کون ہو سکتا ہے۔ یہی وہ اندر وہ شادتیں ہیں جو اس

مفصل روایت کے موضوع ہونے کی دلیل ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ شیخ محمد عوامہ اور ان کے ہمنوا اس واقعہ کی سند پیش کریں اور جو اعتراضات اس پر وارد ہوتے ہیں ان پر بھی توجہ مبذول فرمائیں۔ تنہ علامہ علی قاریؒ کے لکھ دینے سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی۔ امام ابو حنیفہؓ اور امام امشؓ کے مابین تکرار اور مناقشات کا تذکرہ کذاب اور مجبول راویوں نے بڑی رنگ آمیزی سے کیا۔ انہی مناقشات میں سے ایک واقعہ وہ ہے جسے علامہ الخوارزمیؓ نے ”جامع المسانید“ میں خود امام ابو حنیفہؓ کی سند سے بیان کیا ہے۔ اور اسی کو علامہ الکروریؓ نے بھی الناقب ج 2 ص 6 کی زینت بنایا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے۔

”امام ابو حنیفہؓ، امام امشؓ کے پاس ان کے مرض موت میں عیادت کے لئے گئے تو امام صاحبؓ نے انہیں فرمایا کہ آپ کا یہ دن دنیا کا آخری اور آخرت کا پہلا دن معلوم ہوتا ہے۔ آپ حضرت علیؓ کے بارے میں ایسی روایات بیان کرتے رہے ہیں کہ اگر آپ ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے تو بہتر ہوتا۔ امام امشؓ نے فرمایا کیا میرے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے۔ مجھے بخادو۔ جب انہیں بخادو فرمایا تو فرمایا مجھے ابو المتکل الناجی نے حدیث بیان کی۔ اور وہ اسے حضرت ابو سعیدؓ سے روایت کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہو گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور علیؓ کو فرمائیں گے کہ جو تم دونوں سے محبت کرتے تھے انہیں جنت میں داخل کر دو اور جو تم دونوں سے بغض رکھتے تھے۔ انہیں دونوں خیال میں داخل کر دو۔ یہ سن کر امام صاحبؓ نے اپنے رفقاء سے کہا۔ انہوں کیمیں اس سے بڑی چیز نہ لے آئیں۔ (جامع المسانید ج 2 ص 6)

(284-285 ج 1 ص 28)

یہ روایت ”جامع المسانید“ میں ابو حنیفہؓ ”دخل علی سليمان بن مهران“ کے الفاظ سے براہ راست امام ابو حنیفہؓ سے بیان کی گئی ہے۔ بادی النظر میں اس کی سند پر کیا شبہ ہو سکتا ہے مگر یقین جانیئے یہ محض موضوع اور کذاب راوی کی خانہ ساز روایت ہے۔ علامہ ابن جوزی نے اسی روایت کو الم الموضوعات ج 1 ص 100 میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا

راوی اسحاق بن محمد بن ابیان <sup>النَّخْعَنِي</sup> کذاب اور غالی رافضی تھا اسی نے امام اعمش<sup>(۱)</sup> پر یہ جھوٹ گھڑا ہے اس کا استاد سعین بن عبد الحمید المانی بھی کذاب ہے۔ اسی طرح علامہ سیوطی<sup>(۲)</sup> نے بھی اسے اللذی ءالمصنوعۃ ج ۱ ص ۳۸۱ میں اور علامہ الشوكانی<sup>(۳)</sup> نے الفوائد المجموعۃ ص ۳۸۲ میں ذکر کیا ہے اور اسے موضوع قرار دیا ہے۔ حافظ ذہبی<sup>(۴)</sup> نے لکھا ہے کہ اسحاق <sup>النَّخْعَنِي</sup> زندیق تھا اور کہتا تھا حضرت علیہ السلام ہی اللہ ہے۔ (معاذ اللہ) علیہ کے بعد اللہ تعالیٰ کا ظہور حضرت حسن<sup>(۵)</sup> میں اور پھر حضرت حسین<sup>(۶)</sup> میں ہوا۔ معاذ اللہ (میزان الاعتدال ج ۱ ص ۱۹۶، لسان ج ۱ ص ۳۷۱)

اسحاق <sup>النَّخْعَنِي</sup> کی سند ہی سے یہ روایت ابن خرسو اور قاضی عمر بن الحسن الاشتری<sup>(۱)</sup> نے "مند ابی حنفیہ" میں ذکر کر کے "احادیث ابی حنفیہ" میں شامل کر دیا اور بلا تامل علامہ الخوارزی نے بھی کمھی پر کمھی ماری اور اسے "جامع المسانید" میں ذکر کر کے امام ابی حنفیہ کی "مردیات" میں داخل کر دیا اور یہ سوچنے کی بھی زحمت نہیں کی کہ اس واقعہ سے "امام اعمش" کی پوزیشن کیا رہے گی؟ یعنی وجہ ہے کہ علامہ ابن جوزی<sup>(۲)</sup> نے "وکذب علی الاعمش" کہ یہ امام اعمش<sup>(۳)</sup> پر جھوٹ گھڑا گیا ہے کہہ کر امام اعمش کا دامن صاف کر دیا۔

#### جزء اہلہ احسن الجزا

برے تجуб کی بات ہے کہ جامع المسانید کی الگ ہی "مردیات" کو بھی بلا تامل امام ابی حنفیہ<sup>(۱)</sup> کی روایات باور کرانے میں سی بیغ کی جاتی ہے اور بڑی جرات سے کہا جاتا ہے کہ ان کا ضعف تو بعد کے راویوں کی بناء پر ہے۔ امام ابی حنفیہ<sup>(۲)</sup> تک ان میں سند درست ہے۔

(فَإِنَّ اللَّهَ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)

قاضی الشیری<sup>(۱)</sup> نے اخبار ابی حنفیہ و اصحابہ ص ۷۰ میں احمد بن محمد الصلت بن المفلس جیسے کذاب کے واسطے سے اور علامہ ابن عبد البر<sup>(۲)</sup> نے جامع بیان العلم ج ۲ ص ۱۵۷

(۱) عمر بن الحسن بجاۓ خود ضعیف ہے (لسان ج ۴ ص ۲۹۰) اور حسین بن محمد بن خرسو بھی

ضعیف معززی خنی اور حاطب اللیل ہے۔ (لسان ج ۲ ص ۳۱۲)

میں ضعیف اور مجمل سند سے ایک اور واقعہ امام ابو حنیفہ اور امام ائمہ کی باہمی گفتگو کا بیان کیا ہے جسے ابن المفلج بیسے کذاب نے پوری رنگ آمیزی سے بیان کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی جلالت شان تسلیم مگر کذاب، وضاع، ضعیف اور مجمل روایوں کی حکایات پر اس کی بیاد رکھنا اہل علم کو زیر نہیں دلتا۔

اسی طرح کا ایک واقعہ شیخ محمد عوامہ نے تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۳۸ کے حوالہ سے بھی ذکر کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے۔

کہ ”امام عبدالله بن مبارک“ نے فرمایا میں شام میں امام او زاعی سے ملا تو انہوں نے فرمایا: اے خراسانی کوفہ میں یہ ابو حنیفہ بدعتی کون ہے۔ میں اپنے مکان پر آیا اور امام ابو حنیفہ کی کتابوں سے اچھے اچھے مسائل نکال کر تیرے دن امام او زاعی کے پاس گیا۔ میرے ہاتھ میں کتاب تھی۔ انہوں نے فرمایا یہ کتاب کیا ہے؟ میں نے کتاب انہیں دے دی تو انہوں نے اس میں ایک مسئلہ دیکھا جس پر میں نے نشان لگایا ہوا تھا اور لکھا تھا (قال النعمان) نعمان نے کہا، اذان کے بعد کھڑے کھڑے انہوں نے اسی کا ابتدائی حصہ پڑھ ڈالا پھر انہوں نے کتاب کو رکھ دیا۔ عجیب ہوئی تو نماز پڑھ لینے کے بعد پھر اسی کتاب کو پڑھنے لگکے۔ یہاں تک کہ میرے نشان زدہ مقام پر بٹھنے لگے۔ پھر انہوں نے بھٹک کیا کہ یہ نعمان بن مابت کون ہیں؟ میں نے کہا ایک شیخ ہیں۔ میں ان سے عراق میں ملا ہوں۔ فرمائے گئے یہ پرست شیخ میں سے ہیں، جاؤ اور ان سے پہ کثرت استفادہ کرو۔ میں نے کہا کیا ابو حنیفہ ہیں جن سے آپ مجھے روک

حاشیہ صفوی گذشتہ

(2) یہی واقعہ ”السنۃ لعبد اللہ بن احمد“ ج ۱ ص ۱۹ میں سند حسن کے ساتھ منقول ہے جس میں امام ائمہ<sup>ؑ</sup> نے امام ابو حنیفہ سے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں میرے لیے باعث ثقل ہو چہ جائیکہ میرے پاس آؤ۔ اس میں وہ زائد کہانی نہیں جو مجمل اور کذاب روایوں نے بیان کی ہے۔ ”جامع انسانید“ (ج ۱ ص 26-27) میں بھی بعض اسی نوعیت کہانیاں خوں ہیں مگر سند ان کی بھی درست نہیں۔

رہے تھے؟

یہی واقعہ مولانا محمد زکریا کاندھلوی مرحوم نے اوجز الممالک (ج ۱ ص ۸۸-۸۹) میں بھی نقل کیا ہے۔ آخر میں امام اوزاعیؓ کا قول ہے کہ انہوں نے ابن مبارکؓ سے فرمایا ”مجھے امام ابو حنفیہؓ کے کثرت علم اور دفور عقل پر رشک آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے میں پہلے غلطی پر تھا۔ اس سے وابستہ ہو جاؤ۔ ان کے بارے میں مجھے پہلے غلط باقی پہنچی تھیں۔“ مولانا کاندھلویؓ نے اس کی کوئی سند بیان نہیں کی اور خطیب بغدادیؓ نے یہ واقعہ ”احمد بن محمد بن عصمة الخراسانی حدثنا احمد بن بسطام حدثنا الفضل بن عبد الجبار قال سمعت حمدون بن ابی الطوسی“ کی سند سے بیان کیا ہے اور یہ تمام سلسلہ مجملہ راویوں پر مشتمل ہے۔ تبع بسیار کے باوجود ہمیں ان کے تراجم نہیں ملے۔ خود اس واقعہ کی اندر ورنی شہادتیں اس کے وضیع ہونے کی واضح بہانہ ہیں۔ امام اوزاعیؓ امام ابو حنفیہؓ سے واقف نہ تھے۔ یہاں تک کہ کہیت تو سن رکھی تھی مگر نام سے بے خبر رہے۔ امام ابن مبارکؓ نے ”غلط فہمی“ دور کر دی تو فرمایا ”ان سے وابستہ ہو جاؤ۔“ (۱) مگر صورت واقعہ یہ ہے کہ اس تکید بلکہ نصیحت کے باوجود امام ابن مبارکؓ، امام ابو حنفیہؓ سے وابستہ نہ رہ سکے۔ امام مالکؓ سے ملاقات کے بعد بس انہی کے ہو رہے۔ اور امام ابو حنفیہؓ سے تعلق چھوڑ دیا۔ قاضی عیاضؓ رقطراز ہیں۔

”کان اولا من اصحاب ابی حنیفۃ ثم تركه ورجع عن مذهبہ“

قال ابن وضاح ضرب آخرًا في كتبه على ابی حنیفۃ ولم يقرأه

لناس۔“ (ترتیب المدارک۔ ج ۱ ص ۳۰۰)

”پہلے وہ امام ابو حنفیہؓ کے تلامذہ میں شمار ہوتے تھے۔ پھر

انہیں چھوڑ دیا۔ اور ان کے نزہب سے رجوع کر لیا این وضاحؓ نے

(۱) اس کہانی کے وضیع ہونے کے لیے امام اوزاعیؓ کے وہ اقوال بھی دال ہیں جنہیں ”اسنہ“ میں امام عبدالله بن احمد نے نقل کیا ہے۔ اور تاریخ بغداد ج ۱ ص ۲۹۸ میں ایک قول سے عیاں ہوتا ہے کہ وہ امام ابو حنفیہؓ کی وفات کے بعد بھی ان کی عظمت کے قائل نہیں ہوئے۔ نیز دیکھئیے العلل لاحمد بن حمود ص ۲۰۶ -

کما ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں امام ابو حنیفہ کی روایات کو  
تلہز کر دیا تھا اور انہیں لوگوں کو نہیں سناتے تھے۔

غور فرمائیے کجا امام صاحب ”کی کتابوں سے امام او زاعی“ کا متاثر ہو کر ان سے متعلق  
ہو جانے کی تائید کرنا اور کجا آخر میں امام ابو حنیفہ کی روایات ہی کو ظاہرنہ کرنا اور لوگوں  
پر ان کی قرات موقوف کر دینا۔ امام ابن عبد البرؓ نے معلی بن اسد سے نقل کیا ہے کہ میں  
نے امام ابن مبارکؓ سے پوچھا لوگ کہتے ہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ کے قول کی طرف  
جاتے ہیں تو انہوں نے فرمایا لوگ ہربات سیح نہیں کہتے۔ جب ہم انہیں جانتے پوچھانتے نہ  
تھے تو ایک وقت تک ان کے پاس جاتے رہے ہیں مگر جب ہمیں معلوم ہو گیا تو انہیں چھوڑ  
دیا۔” (الانتقاء ص 151)

امام ابن مبارکؓ نے امام ابو حنیفہ کو ”یقیم فی الحدیث“ اور ”مسکین فی الحدیث“ کہا  
ہے۔ (قیام اللیل ص 123، تاریخ بغداد ج 13 ص 415، الصعفاء لابن حبان ج 3 ص 71  
الجرح والتعديل ج 4 ص 450 ق 1) انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ الکامل لابن عدی (ج 7  
ص 32473) میں امام ابن مبارکؓ کے اسی قول کو یوں نقل کیا گیا ہے۔ ”کان ابو حنیفہ فی  
الحدیث سقیم“ اور ناشرین نے بڑے اہتمام سے ”ی“ تلفی پر شد ”یقیم“ بھی ڈال دی۔ انا  
للہ وانا الیہ راجعون۔

امام عبدالله بن مبارک کے ملامہ میں سے امام حمیدؓ ابراہیمؓ بن شمس، حسنؓ بن  
ربیع، حفصؓ بن عبدالله ائمہا پوری نے بیان کیا ہے کہ امام ابنؓ المبارک نے امام ابو حنیفہ  
کو آخر میں ترک کر دیا تھا۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تاریخ بغداد ج 13 ص 414۔ الشفات  
ج 8 ص 70 و الجروھین لابن حبان ج 3 ص 71 اللہ عبد اللہ بن احمد بن ضبل ج 1 ص  
204 الجرح والتعديل لابن الی حاتم ج 4 ق 1 ص 450۔

امام ابن مبارکؓ کا یہ تبعرو اور امام او زاعیؓ کی فہیمت کے بر عکس ان سے ترک  
تعلقات بھی اس کہانی کے بے اصل ہونے کی ایک دلیل ہے۔ مزید بر آں تاریخ بغداد کے  
آخری الفاظ میں ”هذا ابوحنیفة الذي نهيت عنه“ کہ یہ ابو حنیفہ ہیں جن سے آپ مجھے  
روک رہے تھے حالانکہ پورے واقعہ میں کہیں بھی روکنے کی بات نہیں۔ بلکہ سوال ہے کہ  
کوفہ میں یہ ابو حنیفہ کون ہیں؟ سند میں مجھوں راویوں کے علاوہ یہ امور بھی اس کے بھائی

اور وضیع ہونے کی دلیل ہیں۔ مگر ان تمام سے صرف نظر کر کے شیخ محمد عوام نے اسے بھی مفید پایا تو اسے نقل کر دیا۔

اسی طرح ایک تیرا واقعہ تاریخ بغداد ج ۱۱ ص ۱۵۸ کے حوالہ سے ذکر کیا گیا ہے جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

”محمد بن سماحؓ کا بیان ہے کہ عیسیٰ بن ابیانؓ ہمارے ساتھ اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے جس میں محمد بن الحسنؓ شیعائی نماز پڑھتے اور فقہ کا درس دیتے تھے۔ میں عیسیٰ بن ابیان سے کہتا کہ آؤ محمدؓ بن حسن کے پاس چلیں تو وہ کہتے یہ لوگ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک روز انہوں نے صبح کی نماز پڑھی اور میں انہیں امام محمدؓ بن حسن کی مجلس میں لے گیا۔ جب امام محمدؓ درس فقہ سے فارغ ہوئے تو میں نے قریب ہو کر عرض کیا یہ آپ کے بھائی ابیانؓ بن صدقہ کے صاحبزادے ہیں۔ بڑے سمجھدار اور حدیث کو جاننے والے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ امام محمدؓ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا بیٹھے تم نے ہمیں کسی روایت کی مخالفت کرتے دیکھا ہے؟ چنانچہ انہوں نے امام محمدؓ سے حدیث کے پیچیدہ سائل کا ذکر کیا کہ امام محمدؓ ہر ایک کا جواب دیتے جاتے تھے۔ جس پر عیسیٰ بن ابیان نے میری طرف دیکھا۔ اور وہاں سے اشخے کے بعد کما میرے اور نور کے درمیان پردہ تھا وہ دور ہو گیا۔ میں اللہ کی بادشاہت میں ان جیسا اور کسی کو نہیں پاتا۔ اس کے بعد وہ امام محمدؓ سے وابستہ ہو گئے اور ان سے علم فقہ حاصل کیا۔“

یہی واقعہ قاضی ایسمیری نے ”اخبار الی خفیہ و صافیہ“ (ص ۱۲۸) میں بھی ذکر کیا ہے اور انہی کی سند سے خطیب بغدادیؓ نے تاریخ بغداد میں نقل کیا ہے مگر اس واقعہ کا دارودار احمد بن محمد بن مغلن پر ہے جو کذاب اور وضائع ہے جیسا کہ ابھی ہم باحوالہ اس کا ذکر کر آئے ہیں لہذا یہ بھی محض موضوع اور ابن مغلن کی اختراعی کمائی ہے۔

لیکن! یہ ہے حقیقت ان واقعات کی جو امام صاحب کے تفقہ کے بارے میں شیخ محمد

عوامہ نے نقل کیے ہیں۔ ہمیں نہ اصولاً" اس سے اختلاف ہے کہ تفہیہ اور تغییم میں ائمہ مجتہدین کا اپنا اپنا مقام ہے اور نہ امام ابو حنیفہ کے تفہیہ میں سے انکار ہے۔ ہمیں یہ بتلانا ہے کہ شیخ محمد عوامہ نے اس بحث میں اپنے نفسی میلانات کی بناء پر جس طول بیانی کام لیا ہے وہ نقد و جرح کی میزان میں قابل التفات نہیں۔

### اختلاف فہم کا دوسرا سبب

شیخ محمد عوامہ نے اختلاف فہم کی دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ حدیث کے کسی متحمل المعنین لفظ کے معنی و مفہوم متعین کرنے کی وجہ سے بھی اختلاف رونما ہوتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے حدیث "التبایعان بالخیار والمریتف قا" ذکر کی ہے کہ امام شافعی وغیرہ تفریق کا مفہوم تفریق بالابدان لیتے ہیں اور امام ابو حنیفہ وغیرہ تفریق الاقوال (اثر الحدیث ص 89-90)

بلاشبہ اختلاف کا سبب الفاظ حدیث کے معنی متعین کرنے میں بھی ہے اور "یتقرقا" کے مختلف مفہوم کی بناء پر اس مسئلہ میں فقهاء میں اختلاف ہے کہ پیغ کا تحقق بات کرنے سے ہو جاتا ہے یا باعث و مشتری کا اس مقام و محل سے علیحدہ ہو جانے سے ہوتا ہے۔ فرقیین کے اولہ پر نقد و نظر کا یہ محل نہیں اور نہ ہی یہ تجہید ان اس پوزیشن میں ہے مگر بحث کی مناسبت سے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ "یتقرقا" کے مفہوم میں اختلاف قرن اول یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں نہ تھا۔ یہ حدیث حضرت عبد اللہ بن عمر، حکیم بن حزام، ابو بزرہ الاسلامی، عبد اللہ بن عمر، سمرة بن جندب، ابو ہریرہ، ابن عباس، جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے مروی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر اور ابو بزرہ جو اس حدیث کے روایی ہیں اس کا یہی مفہوم بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد تفریق بالابدان ہے۔

امام ترمذی "لکھتے ہیں۔

"اس حدیث کے مطابق امام شافعی، احمد، اسحاق" کا عمل ہے کہ تفریق سے مراد تفریق "بالابدان" ہے۔ "کلام" نہیں۔ بعض اہل علم نے مراد تفریق بالکلام لی ہے۔ مگر پہلا قول صحیح ہے کیونکہ

ابن عمرؓ اور ابو بزرگؓ جو اس حدیث کے راوی ہیں ان کا یہی قول و عمل ہے۔ "اللخ (المحسا جامع ترمذی مع التحفۃ ج 2 ص 242)

حافظ ابن حجر رقطراز ہیں۔

"ولَا يُعْرِفُ لَهُمَا مُخَالِفٌ فِي الصَّحَابَةِ" مکر صحابہ میں ان کا کوئی مخالف نہیں۔ (فتح الباری ج 4 ص 330)

یہی نہیں بلکہ مینہ میں اسی پر عمل رہا اور سب سے پہلے مینہ میں اس سے اختلاف ربیعہ رائی نے کیا۔ حافظ ابن حجرؓ کے الفاظ ہیں۔ "لَا يَحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ عَلَمَاءِ الْمَدِينَةِ الْقَوْلُ بِخَلَافِ فَدْسُوِيِّ عَنْ رَسِيعَةِ" (فتح الباری ج 4 ص 330)

اہل کہ کامبھی تمام تر عمل اسی کے مطابق تھا اور کوفہ میں بھی، البتہ کوفہ میں سب سے پہلے اس سے اختلاف ابراہیمؓ نہیں نہیں کیا۔ ابن حزمؓ لکھتے ہیں۔ "لَا نَعْلَمُ لَهُمْ سَلْفًا إِلَّا إِبْرَاهِيمَ وَحْدَهُ" (المحل ج 8 ص 355) (فتح الباری، ج 4 ص 330)

اب الصاف شرط ہے کہ جب ایک لفظ کے مفہوم پر صحابہ کرامؓ میں اتفاق رہا ہو۔ مینہ میں سب سے پہلے ربیعہ رائی اور کوفہ میں سب سے پہلے ابراہیمؓ نہیں نہیں اس سے اختلاف کیا ہے۔ تو اب صحابہ کے مقابلہ میں ربیعہ اور ابراہیمؓ کے بیان کردہ اس دوسرے مفہوم کی بنیاد پر ہمیشہ کے لیے اختلاف کی دیواریں مغلکم کرنا کہاں تک درست ہے؟ علامہ الحازمیؓ نے اصول ترجیح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:

"الوجه السادس والثلاثون ان يكون احد الحدیثین يقارنه  
تفسیر الراوي دون الاخر حرموا رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالغیار فی البيع ما  
لم يتفرق فافان التفریق ههنا محمول على التفریق بالبدن وذلك لما  
ردی عن ابن عمر انه كان اذا اراد ان يوجب البيع مشی قليلا ثم  
رجع ولأن الراوي اذا شاهد الحال اعلم بمعنى الخبر من غيره اذا  
كان معناه لا يقى باللفظ" (الاعتبار ص 18-19)

یعنی محتیسوں وجہ ترجیح یہ ہے دو حدیثوں میں سے ایک کے ساتھ راوی کی تفسیر ہو جیسے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیغ کرنے والوں کو پیغ میں اختیار ہے۔ (چاہے ثابت رکھیں یا فتح کریں) جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں، تفرق اور جداگانی سے مراد یہاں یہ ہے کہ

بانع مشتری سے علیحدہ ہو جائے یہ اس لیے کہ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ جب پیغ پختہ کرنا چاہتے تو پہنچ قدم چلتے پھر لوٹ آتے کیونکہ راوی جب واقعہ کا شاہد ہو تو وہ اس سے زیادہ جانے والا ہوتا ہے جبکہ اس کا بیان کردہ مفہوم لفظ کے مطابق ہو۔“

مولانا عبدالمحیٰ لکھنؤی نے التعليق المجد میں اس مسئلہ پر بڑی تفصیل سے تبصرہ کیا ہے اور آخر میں واشکاف الفاظ میں اس بات کا انہصار کیا ہے کہ:

وَلِلْمُصْنَفِ الْغَيْرِ الْمُتَعَصِّبِ يُسْتَيقِنُ بَعْدَ احْاطَةِ الْكَلَامِ  
مِنَ الْجَوَابِ فِي هَذَا الْجَعْلِ وَالسَّتَّامِلِ فِيمَا ذَكَرْنَا وَمَا سَنَدْكُرْهُ أَنْ  
أَوْلَى الْأَقْوَالِ هُوَ مَا فَهِمَ الصَّحَابَيَاْنَ الْجَلِيلَانَ وَفَهْمُ الصَّحَابَيِّ دَانَ  
لَمْ يَكُنْ حَجَةً لَكَنْ أَوْلَى مِنْ فَهْمِ غَيْرِهِ (التعليق المجد ص 338)

”اس بحث میں منصف مزاج اور غیر متعصب تمام اطراف سے کلام کا احاطہ کرنے کے بعد اور جو کچھ ہم نے ذکر کیا یا جو ذکر کریں گے۔ اس پر غور و فکر کرنے والا بھی یقین کرے گا کہ تمام اقوال میں بہتر قول وہ ہے جسے دو جلیل القدر صحابیوں نے سمجھا ہے۔ فہم صحابی اگرچہ جنت نہیں مکروہ دوسرے کے فہم سے اولی اور بہتر ہے۔“

اسی مسئلہ میں دلائل کی پختگی کی بنا پر ہی شیخ المند مولانا محمود الحسن دیوبندی کو کہنا

پڑا کہ:

”ذیار مجلس کا مسئلہ اہم مسائل میں سے ہے۔ اور امام ابو حنفیؓ نے اس میں جھوڑ اور اکثر محتقمن و متاخرین کی مخالفت کی ہے۔ جھوڑ نے ان کے مذهب کی تردید میں رسائل بھی لکھے ہیں۔ مولانا شاہ ولیؓ اللہ محدث دہلوی قدس سرہ نے اپنے رسائل میں امام شافعیؓ کے مذهب کو احادیث اور نصوص کی بنا پر ترجیح دی ہے اسی

طرح ہمارے شیخ نے بھی امام شافعیؓ کے نمہب کو راجح کہا ہے اور فرمایا کہ حق اور انصاف یہ ہے کہ اس مسئلہ میں امام شافعیؓ کا نمہب راجح ہے مگر ہم مقلد ہیں ہم پر ہمارے امام ابو حنفیؓ کی تکلید واجب ہے۔“

(تقریر ترمذی امین کپنی دہلی ص 39)

حضرت شاہ ولی اللہ کا کلام جس کی طرف حضرت شیخ الند نے اشارہ کیا ہے، جو اللہ البالغہ ج 2 ص 105 میں دیکھا جا سکتا ہے جس میں انہوں نے تفرق بالا بدان کو حکیمانہ انداز میں عین فطرت کے مطابق قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ آج بھی عرب و عجم میں تفرق کے بعد نفع کو فتح کرنا ظلم و جور قرار دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے نہیں۔ الا یہ کہ کسی کی فطرت سے میں متغیر ہو گئی ہو۔

عصر حاضر کے نامور دیوبندی عالم مولانا محمد تقی عثمانی صاحب حفظ اللہ نے بھی احتاف کے دلائل ذکر کرنے کے بعد واشگاٹ الفاظ میں لکھا ہے۔

”حقیقت یہ ہے کہ اس باب کی احادیث کے بارے میں جو عذر احتاف نے پیش کئے ہیں ان پر میرا دل مطمئن نہیں ان کے تمام دلائل اور تاویلات میرے نزدیک محل نظر ہیں۔“ (ملکملہ فتح المکمل ج 1 ص 373)

خلاصہ کلام یہ کہ بلاشبہ فقہاء کے مابین اختلاف کا ایک سبب حدیث میں محتمل المعنین الفاظ بھی ہیں مگر جس لفظ کو یہاں شیخ محمد عوامہ نے بطور مثال ذکر کیا اصولاً ”اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علمائے ماکیہ اور حنفیہ نے بھی اپنے ائمہ سے اس بارے میں اختلاف کیا ہے مگر جو لکھیر کے فقیر بنے پر اڑے بیٹھے ہیں ان کے لیے ”یتقرقاً“ کا لفظ اس مسئلہ میں اختلاف کا باعث ہے اور رہے گا۔

تعجب ہے کہ شیخ محمد عوامہ نے یہاں ”لَمْ يَتَقْرِقَا“ کے بارے میں امام ابو حنفیؓ کا وہ قول بھی ذکر کر دیا کہ جس پر محمد بن عینہ شدید نکیر کی ہے۔ چنانچہ امام ابن عینہؓ نے امام ابو حنفیؓ کے سامنے یہ حدیث (المتبایعان بالخیار) بیان کی تو انہوں نے کہا اگر خرید و فروخت کرنے والے کشتی میں بیٹھے ہوں تو وہ جدا کیسے ہوں گے۔ امام ابن عینہؓ سے نہ رہا

گیا تو انہوں نے فرمایا ”هل سمعتم بشر من هذا“ اس سے بڑی بات بھی تم نے سنی ہے۔  
 (الانتقاء ص ۱۴۹؛ بغدادی ج ۱۳ ص ۳۸۹) است لعبداللہ بن احمد، ج ۱ ص ۲۱۶۔ اثر  
 الحدیث ص ۹۱)

یہی واقعہ امام زیہی نے السن الکبری (ج ۵ ص ۲۷۲) میں بھی بیان کیا ہے اور امام علیؑ بن مدینی کا مزید یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ ”ان الله سائله عما قال“ کہ ”امام ابو حنیفہ“ نے جو کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ان سے سوال کرے گا۔ ”شیخ محمد عوامہ اسی واقعہ کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ：

”امام سفیان بن عینہ“ ”امام ابو حنیفہ“ کا مقصد نہیں سمجھ سکے جس کی بناء پر انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ اپنی رائے ہے حدیث کو رد کرتے ہیں، حالانکہ امام صاحب“ کا مقصد یہ ہے کہ یہاں تفرق سے مراد تفرق بالاقوال ہے کیونکہ بسا اوقات تفرق بالابدان مشکل ہوتا ہے مثلاً وسط دریا میں دو آدمی خرید و فروخت کا معاملہ کریں تو تفرق بالابدان یہاں مشکل ہے۔“

شیخ محمد عوامہ حیران ہیں کہ امام ابن عینہ بلکہ امام علیؑ بن مدینی نے بھی امام صاحب“ کے موقف کو سمجھنے کے بغیر ہی اعتراض کر دیا۔ حالانکہ خود انہیں یہ سوچنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ امام ابن عینہ“ کا اعتراض اس بناء پر ہے کہ جب اس کی تعبیر صحابہ سے ثابت ہے تو پھر اس کے خلاف اس قسم کا شو شہ پھوڑنا درست نہیں۔

ثانیاً ”احکام اکثرتی احوال کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ شاذ اور گاہے بگاہے احوال کی بناء پر نہیں۔“ مزید عرض ہے کہ اگر امام صاحب“ کے سامنے حدیث کے مفصل الفاظ ہوتے تو یقیناً اس تاویل بلکہ جارت سے اجتناب کرتے چنانچہ بواسطہ ”الدیث عن نافع“

حضرت ابن عمر سے یہ الفاظ بھی مروی ہیں ”اذ اتباع الرجالن فكل واحد منهما بالغیار مالمیتفرقا و کاناجسیعا او یغیر احدهما الا حرفتبا یعا علی ذلک فقد وجہ البیع۔ (بخاری ج ۱ ص ۲۸۴۔ مسلم ج ۲ ص ۶)

”کہ جب دو آدمی خرید و فروخت کریں تو جدا ہونے سے پہلے

دونوں کو اختیار ہے (کہ بیع پختہ کر لیں یا فتح کر لیں) یا ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو اختیار دے اور وہ اس پر بیع کریں تو وہ بیع واجب ہو جائے گی۔“

اور مسلم میں یہ الفاظ ہیں۔ ”اویکون بیعہما عن خیار فاذا کان بیعہما عن خیار فقد وجب“ کہ یا ان کی بیع بشرط خیار ہو۔ پس جب ان کی بیع بشرط خیار ہو گی تو وہ واجب ہو جائے گی۔ لہذا جب بشرط خیار بیع کے لحوم کا ذکر حدیث میں موجود ہے تو کشتی میں سوار ہونے والے اس پر عمل کریں گے اور کوئی استحالة لازم نہیں آئے گا۔ اگر یہ وضاحت امام صاحب“ کے پیش نظر نہ تھی اور یہ بعد بھی نہیں تو کیا شیخ محمد عوامہ بھی اس حقیقت سے بے خبر ہیں؟

یہاں یہ دلچسپ بات بھی قبل ذکر ہے کہ شیخ محمد عوامہ نے اس واقعہ پر کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ اسے صحیح تسلیم کر کے اس سے امام صاحب“ کی عظمت پر ایک دلیل لائے ہیں کہ امام صاحب“ کی بات کو ابن عینہ“ سمجھ ہی نہیں سکے حالانکہ دیگر علمائے احتجاف اس واقعہ کی صحت سے انکار کرتے ہیں اور علی وجہ اتسالیم تقریباً“ اس کی وہی تعبیر کرتے ہیں جو شیخ محمد عوامہ نے کی ہے۔ چنانچہ علامہ مارویٰ“ لکھتے ہیں۔

”هذه حکایۃ منکرۃ لا تلیق با بن حنفیۃ“ کہ یہ حکایت منکر

ہے کہ امام ابو حنفیہ کی شان کے لائق نہیں۔“ (الجواہر النقی ج ۵

ص 272)

امام تیمیٰ نے چونکہ اسے ابن عینہ“ سے یوں نقل کیا ہے کہ میں نے یہ حدیث الہ کوفہ کو بیان کی تو ”فحدثوا به ابا حنفیۃ فقال ابو حنفیۃ“ انہو نے یہ ابو حنفیہ“ کے سامنے پیش کی جس پر ابو حنفیہ“ نے کہا۔ ”هذا ليس بشیع“ ”یہ کوئی چیز نہیں۔“ اسی بنااء پر علامہ مارویٰ“ نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ ”فحدثوا“ حدیث بیان کرنے والے کون ہیں؟ حالانکہ الانتقاء (ص 149) میں امام ابو عینہ“ کے یہ الفاظ بھی ہیں۔ ”حدیثة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ کہ میں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی۔ لہذا سند میں جملات کا اعتراض درست نہیں۔

علامہ مارویٰ“ کے علاوہ سید مرتضیٰ الحسینی نے بھی کہا ہے کہ ”هذه حکایۃ منکرۃ لا

تلقی بابی حنفیۃ“ کہ یہ حکایت منکر ہے اور امام صاحب کی شان کے مناسب نہیں۔ ”عقواعد الجواہر“ ج 2 ص ۱۷ التعقیل المجد (ص 333) اسی طرح علامہ الکوثری نے بھی اس پر اعتراض کیا ہے۔ تائب (ص 120) جس کا جواب استنکیل (ج 2 ص 47 تا 58) میں دیکھا جاسکتا ہے ہمیں یہاں صرف یہ عرض کرتا ہے کہ شیخ محمد عوامہ کے پیش رو تو اس واقعہ کو امام صاحب“ کی شان کے متافی سمجھتے ہوئے اسے منکر قرار دیتے ہیں مگر ان کے بر عکس حضرت الشیخ اسے امام صاحب“ کی عظمت کی ایک دلیل قرار دیتے ہیں۔ فوج ہے۔  
ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو

یہاں ہم قارئین کرام کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ عموماً یہ بات پادر کرائی جاتی ہے کہ امام ابو حنفیۃ اور ان کے متبوعین کسی بھی مسئلہ کے لیے پہلے قرآن پھر حدیث اور پھر آثار صحابہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اکثر علمائے احناف کا یہ مسلک ہے راوی حدیث یعنی صحابی کی تغیر و تعبیر زیادہ محترم ہے کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو سب سے زیادہ جانتے والا ہے۔ مگر غور فرمایا آپ نے کہ مسئلہ خیارِ مجلس پر حدیث موجود اس کی تغیر و تعبیر و جلیل القدر صحابہ سے ثابت، اسی پر صحابہ کا اجماع یکن یہاں نہ آثار صحابہ کا اہتمام، نہ صحابی رسول کی تفسیر کا اعتبار۔ آخر یہاں یہ اصول کہاں گیا؟ فاغتبروا یا اولی الابصار

شیخ محمد عوامہ نے اسی بحث کے ضمن میں فقماء کے فتاویٰ کے بارے میں بھی کچھ ایسی باتیں کہی ہیں جو دلچسپ بھی ہیں، اور تجب اگنیز بھی۔ لیکن چونکہ ان کا اس بحث سے کوئی جو ہری تعلق نہیں اس لیے ان سے صرف نظر کرتے ہوئے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔

### اختلاف کا تیرا سبب

ائمہ فقماء کے اختلاف کا ایک سبب یہ ہے کہ ایک ہی باب میں متعارض احادیث دارد ہوتی ہیں۔ ان کے بارے میں کیا موقف اختیار کیا جائے۔ اس سلسلے میں فقماء کی مختلف آراء ان کے اختلاف کا سبب ہیں۔ (ملخصاً) (بینات جنوری ص 21 اثر الحدیث الشریف ص 101)

مولانا قاسی صاحب نے خفی نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ کشمیری سے نقل کیا ہے کہ۔

”دو حدیثوں کے درمیان تعارض کی صورت میں ہمارے نزدیک حکم یہ ہے کہ پہلے اسے صحیح پر محول کریں گے۔ ایک کو صالح دوسری کو منسوخ قرار دیا جائے گا۔ اگر اس کا امکان نہ ہو تو تصحیح کا راستہ اختیار کیا جائے گا۔ اگر کسی ایک کے لیے بھی وجہ ترجیح نہ ہو تو تطہیق کی کوشش کی جائے گی۔ اگر تطہیق ممکن نہ ہو تو دونوں کو ساقط قرار دیا جائے گا۔ ہمارے نزدیک یہی ترتیب ہے جیسا صاحب التحریر نے لکھا ہے۔ شافعیہ کے نزدیک ترتیب یہ ہے۔ ”تطہیق، صحیح، ترجیح، ساقط“ (بینات۔ جنوری۔ ص 21-22۔ فیض الباری ج 1 ص

(52)

مختلف فیہ اور باہم متعارض روایات میں جمع و توفیق دغیرہ کی صورت بلاشبہ علمائے احتلاف کے نزدیک یہی ہے ہم اگر اس پر کوئی تبصرہ کریں تو چھوٹا منہ بڑی بات کا مصدقہ قرار پائے گا۔ اس لیے مناسب سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں خود علامہ کاشمیری مرحوم ہی کی بات نقل کر دی جائے جو اسی فیض الباری ہی میں مذکور ہے۔ چنانچہ ایک ہی مسئلہ کے بارے میں امام ابو حنیفہ کے مختلف اقوال و فتاویٰ کے متعلق فرماتے ہیں۔

”واعلم ان الروايات اذا اختلفت عن امامنا في مسألة فعامة  
مساكننا يسلكون فيها مسلك الترجيح فياخذون لظاهر الرواية و  
يتركون نادرها وليس بسديد عندى فيما اذا كانت الرواية المأدرة  
تسايد بالحديث فان احمله على تلك الرواية ولا اعتباً بكونها مأدرة  
فإن الرواية اذا جاءت عن امامنا رحمه الله لا بد ان يكون لها  
عندك دليل من حديث او غيرة فإذا وجدت حديثاً يوافقها احمله  
عليها الفضل الترجيح المماييـنـاسب بين الاـقوـالـ المـخـلـفةـ عنـ المـشـائـخـ  
فـانـ التـضـادـ عـنـ اـخـتـلـافـ القـائـلـينـ مـعـقـولـ وـرـبـماـ يـكـونـ التـوفـيقـ  
بـيـنـهـمـ خـلـافـ مـنـشـئـهـمـ وـحـيـنـئـ لـاـ سـبـيلـ الـاـلىـ التـرجـيـحـ بـخـلـافـ ماـ

اذا جاء الاختلاف عن قائل واحد، فان الاولى فيها الجمع فان  
الاصل في الكلام متكلم واحد ان لا يكون بين كلاميه تضاد فينبغي  
بينهما الجمع او لا الان يترجح خلافه والاسف انهم اذا مردوا  
بما حديث مختلفه يتعرون الجمع بينها عامة اذا مردوا بروايات عن  
الامام اذا هم يرجحون ولا يمكن الجمع فالاحب الى الجمع بين  
الروايات عن الامام مهما امكن الا ان يقوم الدليل على خلافه  
فاعلمه ولا تعجل” (فيض الباري ج ۱ ص ۳۵۷)

یعنی ”ہمارے امام سے جب ایک ہی مسئلہ کے بارے میں  
مختلف اقوال مروی ہوں تو ان کے بارے میں عموماً ”ہمارے مشائخ  
ترجیح کا مسلک اختیار کرتے ہیں۔ ظاہر روایت کو لے لیتے ہیں اور  
نادر کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہ میرے نزدیک درست نہیں بالخصوص  
جبکہ نادر روایت کی تائید کسی حدیث سے ہوتی ہو تو میں اس قول کو  
اس روایت پر محمول کرتا ہے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ  
نادر قول ہے (یعنی ظاہر روایت کے خلاف ہے) کیونکہ ہمارے امام  
سے جب کوئی قول منقول ہو تو ضروری ہے کہ اس کی کوئی دلیل  
حدیث وغیرہ سے ہو۔ جب میں حدیث اس نادر قول کے بارے میں  
پاتا ہوں تو اسے اس روایت پر محمول کرتا ہوں۔ البتہ ترجیح مشائخ  
کے مختلف اقوال میں مناسب ہے کیونکہ مختلف حضرات کے اقوال  
میں تضاد و اختلاف معقول بات ہے اور بسا اوقات ان کے اقوال  
میں جمع و تقطیق ان کے مقصد و مفہوم کے منافی ہوتی ہے۔ الکی صورت  
میں ترجیح کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ بر عکس اس کے کہ جب اختلاف  
ایک ہی قائل سے منقول ہو۔ تو وہاں بستری ہے کہ جمع و توفیق کی  
صورت اختیار کی جائے کیونکہ ایک ہی متکلم کے کلام میں اصل بات  
یکی ہے کہ اس کے کلام میں تضاد نہیں ہوتا چاہیے۔ لہذا ایک  
قاںل کے اقوال کے اختلاف میں پہلے جمع کی صورت مناسب ہے

اور ترجیح اس کے خلاف ہے اور جائے افسوس کہ وہ جب مختلف احادیث کو دیکھتے ہیں تو عموماً "جمع کی صورت تلاش کرتے ہیں اور جب امام صاحب کی روایات دیکھتے ہیں تو ترجیح کی صورت اختیار کرتے ہیں جمع کی نہیں۔ میرے نزدیک پسندیدہ بات یہی ہے کہ امام صاحب کی روایات میں جماں تک ممکن ہو جمع کی کوشش کی جائے الا یہ کہ اس کے خلاف کوئی دلیل موجود ہو۔ جلدی نہ کرو اسے خوب جان لو۔"

غور فرمایا آپ نے کہ امام صاحب کے مختلف اقوال میں اور ایک ہی قائل کے مختلف اقوال میں اولیٰ فیہما الجمیع ترجیح کی بجائے جمع اولیٰ قرار دیا گیا۔ اسی کو اصول و عقل کی روشنی میں راجح کیا گیا مگر احادیث کے بارے میں شیخ کے بعد ترجیح اور پھر جمع کی صورت کو اختیار کیا جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ ہم اس پر مزیر لکھنے کی پوزیشن میں نہیں اور نہ ہی یہ مضمون اس تفصیل کا محمل ہے۔ البتہ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ مولانا قاسمی صاحب نے یوں کہنے کو تو شیخ محمد عوامہ کی کتاب سے استفادہ کرتے ہوئے یہ مضمون لکھا مگر اس بحث میں ان کی رائے شیخ محمد عوامہ سے مختلف ہے۔ چنانچہ شیخ موصوف نے مختلف فیہ احادیث کے بارے میں جمع و تطبيق کی جو صورتیں پیش کی ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) جمع و تطبيق (۲) جمع ممکن نہ ہو تو ایک تاخ دوسری منسون (۳) شیخ کی صورت ممکن نہ ہو تو ایک کو دوسری پر ترجیح دی جائے گی، بعض علماء نے تیرے مسلک کو دوسرے سے مقدم رکھا ہے۔ ان کے نزدیک صورت، جمع پھر ترجیح پھر ترجیح کی ہے۔" (اثر الحدیث الشریف

ص 101)

اصول حدیث کا طالب علم اس بات سے بخوبی واقف ہے۔ متعارض روایات میں جمع و تطبيق کی جو ترتیب شیخ محمد عوامہ نے ذکر کی ہے وہ وہی ہے جسے عموماً "حضرات محدثین رحمهم اللہ نے اختیار کیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔ علوم الحدیث لابن الصلاح (ص 244) تدریب الرادی مع الترتیب (النوع 3 ج 2 ص 198-199) کتاب الاعتبار ص (7-8) شرح نجۃ الفکر

(ص ۴۰) توجیہ النظر (ص ۲۳۵) وغیرہ

شیخ محمد عوامہ نے اس اصول کو نقل کر کے گویا تسلیم کیا ہے کہ مختلف احادیث میں جمع و تطبیق کی ترتیب کا خنثی اصول درست نہیں۔ ان سے قبل اسی بات کا اظہار علامہ عبدالمحی لکھنؤی ”الاجبۃ الفاضلة“ (ص ۱۸۲ تا ۱۹۷) میں کر پکے ہیں اور انہوں نے یہی قول علامہ طحاویٰ سے بھی نقل کیا ہے۔

## ارجیعت صحیحین

دو متعارض روایتوں کے مابین ترجیح کے اسباب و وجہ کون کون سے ہیں ان کی تفصیل کتاب الاعتبار، النکت للعرaci، تدریب الراوی، ارشاد الغمول، قواعد علوم الحدیث للقاسمی وغیرہ کتب میں دیکھی جا سکتی ہے۔ شیخ محمد عوامہ اور مولانا قاسمی صاحب نے اپنے مخصوص نفسی میلانات کی بناء پر یہاں یہ شوشاچھوڑا ہے کہ :-

”علامہ حازی“ نے ترجیح کے پچاس اسباب ذکر کئے اور حافظ عراقی نے ایک سو دس، اور ان میں سے ایک سو دو پر ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ صحیحین کی روایت دوسری حدیث سے راجح ہوگی لیکن اس دور کے بعض مدعیان علم و تحقیق سارے اسباب سے غافل ہو کر صرف اسی ایک سبب کو لے کر بے خابار راجح و مرجوح کا فیصلہ کرتے رہتے ہیں۔“ (بینات، جنوری ص ۲۳ - اثر الحدیث ص ۱۰۴ - ۱۰۵)

مگر یہ مخف ناخواندہ حضرات کو اپنے دامِ تزویر میں پھسانے کا ایک جگہ سے ہے۔ سوال یہ ہے کہ اولاً : کیا علامہ حازی کی ذکر کردہ یہ وجہ ترجیح الاول ثم الثانی ثم الثالث کے قبیل سے ہیں؟ قطعاً نہیں نہ یہ کسی نے کہا اور نہ ہی یہ شروط ذکر کرنے والوں نے اس کی کیسی صراحت کی۔

(ثانیاً) : ان اسباب وجوہ ترجیح میں سب سے پہلی وجہ ترجیح عموماً ”کثرة العدد“ ذکر کی گئی ہے کہ جو روایت کثیر صحابہ کرام سے مروی ہوگی اسے اس حدیث پر ترجیح دی جائے گی

جسے ایک یا دو صحابہ بیان کرتے ہوں لیکن کیا شیخ محمد عوامہ اور ان کے دیگر ہمتوں اسے تسلیم کرنے کے لئے تیار ہیں؟ ویدہ بایدہ (مالا) علامہ حازیؒ نے گو صراحت "صحیحین" کی روایت کو راجح اور دوسری کو مرجوح قرار دیئے کا اصول ذکر نہیں کیا مگر جب انہوں نے دوسری وجہ "اَخْدَ الرَّاوِيِّينَ اَتَقْنَ وَاحْفَظَ" کے "ایک روایت کے راوی اَتَقْنَ اور اَحْفَظَ ہوں دوسری سے" اور تیسرا وجہ "اَخْدَ الرَّاوِيِّينَ مُتَقْفَاتٍ عَلَى عِدَالَةِ اللَّهِ" کہ جس روایت کے راویوں کی عدالت متفق علیہ ہو۔ اسے دوسری روایت پر ترجیح ہوگی۔ بیان کی ہے تو کیا یہ دونوں شریمن اصول میں صحیحین کی احادیث کے راویوں میں نہیں پائی جاتی؟ صحیحین کے راویوں کے بارے میں تو شیخ ابوالحسن المقدسی کا جملہ معروف ہے کہ "هذَا إِجَادَةُ الْقَنْطَرَةِ" یہ پل پر سے گزر گیا ہے۔ یہی بات شیخ ابوالحسن القشیری نے کہی ہے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ان دونوں کتابوں کو "صحیحین" کہنا بجائے خود اس کے راویوں کی عدالت کی ایک نہیں دلیل ہے (المحدث ص 384)

علامہ شوکالیؒ لکھتے ہیں "فَكُلُّ رَوَاتِهِ قَدْ جَاءَ رَأْيَ الْقَنْطَرَةِ وَ اِرْتَفَعَ عَنْهُمْ الْعَيْلُ وَ الْقَالُ" کہ صحیحین کے تمام راوی پل پر سے گزر گئے ہیں اور ان پر سے نیل و قال مرتفع ہے" (قطر الولی ص 218) لہذا جب صحیحین کے بارے میں ائمہ کی یہ تصریحات ہیں تو کیا ان کی روایات علامہ حازیؒ کی ان ذکر کردہ شروط پر پوری نہیں اترتیں؟ بلکہ کہنا یہ جائز ہے کہ ان کا کامل طور پر مصدق صحیحین ہی ہیں۔

ہماری اس وضاحت کی تائید خود امام حازیؒ کے کلام سے بھی ہوتی ہے جب کہ کتاب الاعتبار میں انہوں نے جامباً "حَدَّ أَحْدِيثِنَا شَرْطَ الْبَخَارِيِّ" یا "عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ" کہتے ہوئے محدثین کے معروف اصول کی گوا تائید کی ہے۔ ملاحظہ ہو کتاب الاعتبار (35) 36 37 38 (231) نیز شرمگاہ کو چھوٹے سے وضو ثبوت جاتا ہے یا نہیں۔ اس مشہور اختلافی مسئلہ پر فریقین کے ولائل پر تبعہ کرتے ہوئے حضرت ببرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہا کی حدیث جس میں وضو ثبوت جانے کا ذکر ہے کو راجح قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"وَ حَدَّيْثُ قَيْسِ بْنِ طَلاقَ الْمَالِمِ يُخْرِجُهُ صَاحِبَا الصَّحِيفَةِ فِي

الصَّحِيفَ لِمَ يَحْتَاجَا إِلَيْهَا بَشَّى عَنْ رَوَاتِهِ وَ لَا بِرَوَاتِ الْأَثْرِ رَوَا

حَدِيثَهُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْحَدِيثَ وَ حَدِيثَ بَشَّرَةَ إِنَّ لَهُ يُخْرِجَاهُ

لَا خِلَافٌ وَقَعَ فِي سَمَاعِ عُرْدَةَ مِنْ بَسْرَةَ أَوْ هُوَ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ  
بَسْرَةَ فَقَدْ احْتَاجَ بِسَائِرِ رِوَاةَ حَدِيثِهَا مَرْوَانَ فَمِنْ دُونِهِ قَالُوا فَهُذَا  
دَجَهٌ رِجْحَانٌ حَدِيثُهَا عَلَى حَدِيثِ قَيْسٍ مِنْ طَرِيقِ الْإِسْنَادِ

(كتاب الاعتبار ص 45)

”يعني قيس بن ملقي حدیث کو جس طرح امام بخاری“ اور امام مسلم“  
نے ”الصحیح“ میں ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح قیس“ کی روایت سے  
بھی انہوں نے استدلال نہیں کیا اور نہ ہی اس حدیث کے اکثر  
راویوں کی دوسری احادیث سے احتجاج کیا ہے اور بصرۃ کی حدیث  
میں عروۃ کا بصرۃ سے سامع میں اختلاف، یا یہ روایت مروان“ سے ہے  
یا بصرۃ سے، اس اختلاف کی وجہ سے اگرچہ امام بخاری“ اور امام مسلم“  
نے بھی اس کی تخریج نہیں کی مگر اس کے تمام راویوں سے انہوں  
نے احتجاج کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسناد کے اعتبار سے بصرۃ کی  
حدیث قیس“ کی روایت سے راجح ہے۔“

غور فرمائیے اسناد کے اعتبار سے علامہ حازیؒ حضرت بصرۃ کی حدیث کو راجح اس لئے  
قرار دے رہے ہیں کہ اس کے راوی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی ہیں۔ لہذا جب  
ان کے نزدیک یہ ایک وجہ ترجیح مسلم ہے تو خود صحیحین کی روایت دوسری روایت سے راجح  
کیوں نہیں ہوگی؟ جس سے ہمارے موقف کی حرف بحروف تائید ہوتی ہے کہ علامہ حازیؒ  
نے گواہ اسabاب ترجیح میں صراحتاً ”صحیحین“ کا ذکر نہیں کیا مگر جو دوسری اور تیسرا وجہ انہوں  
نے بیان کی ہے اس کا کامل ترین مصدقہ ”صحیحین“ ہیں۔

یہاں اس تفصیل کی ضرورت نہیں کہ صحیحین کی ارجحیت ائمہ فن کے نزدیک مسلم  
ہے۔ اگر شیخ محمد عوامہ یا مولانا قاسی صاحب اس کا انکار کرتے تو ہمارے لئے بھی کچھ کہنے  
کی گنجائش نکل آتی۔ انمیں صرف اس بات پر تعبیر ہے کہ اسabاب وجہ ترجیح ذکر کرنے  
والوں نے ارجحیت صحیحین کا اصول ترتیب میں بہت بعد میں بیان کیا ہے لیکن بعض  
حضرات اسی بنا پر عموماً راجح مرجوح کا فیصلہ کر دیتے ہی مگر ہم ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ کر  
آئے ہیں۔ علاوہ ازیں جن حضرات نے بہت سی روایات کو صحیحین کی بنا پر راجح قرار دیا

ہے۔ ان کے کلام کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم یہاں صرف دو حوالوں کے ذکر پر اکتفاء کریں گے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر صحیح بخاری کی ایک روایت کہ سیدہ ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریشم کی چادر زیب تن فرماتی تھیں مگر طحاوی، نسائی اور ابن حبان میں حضرت عقبہ کی روایت، کہ آخر خضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کو ریشم پہننے سے منع فرماتے تھے، پر بحث کے دوران فرماتے ہیں کہ امام طحاویؒ نے ان دونوں کو باہم متعارض خیال کر کے حضرت عقبہ کی روایت کو تاخذ قرار دیا ہے لیکن ان کا یہ دعوے تنخ و معارضہ مردود ہے۔ دونوں روایات میں جمع و تطبیق واضح ہے کہ حضرت عقبہ کی روایت میں ممانعت کو مکروہ تنزیہ سمجھا جائے اور سیدہ ام کلثوم کے عمل کو بیان جواز پریا ان کے بچپنے پر محظوظ کیا جائے کہ صفر سنی میں انہوں نے ریشم کی چادر استعمال کی ہوگی۔ (فتح الباری، ج 10 ص 300) مگر علامہ عینیؒ نے ان پر تعاقب کرتے ہوئے کہا ہے کہ :

”قلت حدیث أنس لا يعارض حدیث عقبة لأن تصحیح البخاری“

”أقویٰ من تصحیح غیره فالمعارضة تستضی المساواة“

(عمدة القارئ - ج 22 ص 19)

یعنی حضرت انسؓ کی حدیث جس میں سیدہ ام کلثومؓ کے عمل کا بیان ہے۔ حضرت عقبہؓ کی حدیث کے معارض نہیں کیونکہ بخاری کی تصحیح دوسروں کی تصحیح سے زیادہ قوی ہے۔ معارضہ میں دونوں روایات کا برابر ہونا ضروری ہے۔“

غور فرمائیے۔ حافظ ابن حجرؒ جو ارجیح تھیں کے بڑی شدت سے قائل ہیں وہ تو محدثین کے اصول کے مطابق دونوں روایتوں کے مابین جمع و تطبیق کی صورت پیش کرتے ہیں۔ مگر علامہ عینیؒ ”ارجیح“ کے اصول کی بنا پر حضرت عقبہؓ کی روایت حضرت انسؓ کی روایت کے معارض تسلیم کرنے کے لئے ہی تیار نہیں۔

اسی طرح تشدید کے مسئلہ میں حنفی، شافعی اختلاف معروف ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے بیان کردہ الفاظ راجح ہیں یا حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کے، جمہور اور علمائے احباب حضرت عبد اللہ بن مسعود کی روایت کو راجح قرار دیتے ہیں۔ علامہ ذیلیعی وجہ ترجیح بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ائمہ ست لفظاً“ و معاً اس روایت پر متفق ہیں یعنی تمام کے

الفاظ ایک ہی ہیں اور ایسا اتفاق شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ ابن عباس کی روایت صرف مسلم میں ہے اور ابن مسعود کی روایت بخاری و مسلم دونوں میں ہے اور حفاظ کے نزدیک صحیح روایت کا اعلیٰ درج یہ ہے کہ اس پر شیخن متفق ہوں۔ (نصب الرایہ، ج ۱ ص ۴۲۱)

ان دونوں مثالوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صرف "ارجیت صحیحین" کے اصول کی بنا پر "بے محابا" راجح مرجوح کا فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ دوسرے قرآن اور اصولوں کو بھی پیش نگاہ رکھا جاتا ہے۔ کسی بھی اختلافی بحث کو انھا کر دیکھ لیجئے رفع الیدین، فاتحہ خلق الامام، یا آئین با لمبر وغیرہ جیسی معربکہ الاراء اختلافی مباحث میں بھی صرف اسی اصول پر قناعت نہیں کی گئی۔ شیخ محمد عوامہ اور مولانا قاسمی صاحب معلوم نہیں کس غلط فہمی کا شکار ہیں۔ جماں تک اس اصول کا تقاضا ہے تو خود علمائے احتاف بھی اس کے مترف ہیں۔ کو بعد میں علامہ ابن ہمام کی اقتداء میں محسن مسلک کی کورانہ حمایت میں اس کا انکار کر دیا گیا ہے جس کا اعتراف شیخ عبدالحق دہلویؒ نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

"و ایں خن نافع و مفید است در غرض از شرح ایں کتاب که اثبات و تائید مذاہب ائمہ مجتهدین است خصوصاً مذهب حنفی و غرض شیخ ابن ہمام نیز ہمیں است۔" (شرح سفر العادت ص ۱۵ مطبوعہ ۱۴۹۲ھ)

یعنی یہ بات (کہ اختلاف روایات کی صورت میں صحیحین کی روایت راجح نہیں ہو گی) اس کتاب کی شرح میں بڑی نفع بخش اور مفید ہے۔ ائمہ مجتهدین خصوصاً مذهب حنفی کے اثبات و تائید کے لئے ہے۔ شیخ ابن ہمامؓ کی غرض بھی یہی ہے۔

علامہ عبدالحی لکھنواریؒ نے "الا جوبۃ الفائدۃ" اور اپنی دیگر تصانیف میں علامہ ابن ہمامؓ کی خوب تردید کی ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ "بوقت ضرورت" خود علامہ ابن ہمامؓ اسی اصول کو اختیار کئے بغیر نہیں رہ سکے مگر اس ساری تفصیل کی یہاں مکجاوش نہیں۔

## محمد شین کی نیتوں پر حملہ

ارجیت صحیحین کے ضمن میں شیخ محمد عوامہ معارف السنن

(ج ۶ ص 613 - 614) کے حوالہ سے لکھتے ہیں:-

”امام بخاری“، امام مسلم وغیرہ محدثین نے اختلافی مسائل میں فقہ و اجتہاد سے یا بحثتین میں سے کسی امام کی ابتداع میں ایک موقف اختیار کیا اور اپنی تصنیف میں اپنے فقہی مذہب کے دلائل جمع کئے۔ یوں حدیث میں ان کے فقہی اثرات کا بڑا عمل دخل ہے۔

(اثر الحدیث الشریف ص 105 - 106)

یہی بات نصب الرایہ ج 4 ص 17 کے حاشیہ میں مولانا عبد العزیز مرحوم نے علامہ کاشمیری کے حوالہ سے بیان کی ہے خود علامہ کاشمیری نے اسی بات کا تذکرہ اپنی کتاب فصل الخطاب (ص 69-107) میں کیا ہے جس کی شیخ محمد عوامہ نے ”کلمہ ذہبیہ“ کہہ کر تحسین کی ہے۔ حضرات محدثین رحمۃ اللہ کے بارے میں بالعموم اور امام بخاری کے بارے میں بالخصوص متاخرین احتجاف نے جو کما اور جلے دل کی بھروس جس انداز سے نکالی گئی اس کی داستان طویل بھی ہے اور بڑی تعبیر ناک بھی۔ جس کی تفصیل ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جن حضرات کی مسامی پر علماء امت نے تحسین کی ہو۔ جن کی امانت و دیانت پر تمام محدثین کا اتفاق ہو۔ تمام کتب احادیث میں ان کی کتابوں کو ممتاز قرار دیا گیا ہو اور بالخصوص امام بخاری کی کتاب کے بارے میں یہ جملہ زبان زد عالم و خاص ہو کہ ”اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری“، ”کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔“ آج بالخصوص اسی امام کے بارے میں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ ان کی کتاب میں ان کے فقہی مسلک کا بڑا عمل دخل ہے۔ إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ مُرَاجِعُنَا۔ دراصل ان مقلدین حضرات نے ائمہ حدیث بالخصوص امام بخاری کے بارے میں اپنے ہی ذہن کی عکاسی کی ہے اور اپنے گفر کے تناظر میں ان پر یہ الزام لگایا ہے مقلدین کے ہاں چونکہ عموماً امام کا قول مقدم اور دلیل مؤخر ہوتی ہے امام کے قول کی تائید کے لئے بڑی محنت سے دلیل تلاش کی جاتی ہے پھر ہر ممکن اس کی صحت ثابت کرنے کی کوشش ہوتی ہے اگرچہ اصول نقد روایت میں وہ انتہائی ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس کے برعکس ایک بخت مد دلیل کی بنیاد پر ایک مسئلہ استنباط کرتا ہے۔ امام بخاری نے چونکہ صحت کا الزام کیا ہے۔ اس لئے جو روایات ان کی تحقیق میں صحیح تھیں ان کو جمع کیا اور ان پر ابواب مرتب کر کے اس سے مستبط مسئلہ کا اشارہ کرویا۔ حضرت شاہ ولی اللہ حضرات

محمد شین کے اسی اصول کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”فلم يكين عندهم من الرأى أن يجمع على تقليد رجل ممن مضى  
مع ما يرون من الأحاديث والأثار المناقضة فى كل مذهب من  
تلذ المذاهب فأخذوا يتبعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم  
آثار الصحابة والتابعين والمجتهدين على قواعد أحکموها۔“

(بجۃ اللہ ج ۱ ص ۱۴۹ - الانصاف ص 26)

یعنی ”ان کے نزدیک پہلے بزرگوں میں سے کسی ایک کے قول  
کی تقلید نہ تھی اور وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ ان تمام مذاہب میں سے  
ہر مذهب کے بعض احادیث اور آثار مناقض و مخالف ہیں۔ اس لئے  
انہوں نے اپنے قواعد کے مطابق احادیث نبویہ، آثار صحابہ اور  
تابعین و مجتهدین کی پیروی کی۔“

خلاصہ یہ کہ حضرات محمد شین کی فقہ ”حدیث“ ہے کسی مجتہد کا قول نہیں کہ اس کی  
تماسی و حمایت میں کوئی ”تصرف“ کیا ہے جیسا کہ عموماً مقلدین کا عمل ہے کتنے تعجب کی بات  
ہے کہ علامہ کاشمیری ایک طرف تو فرماتے ہیں۔

”واعلم أن البخاري مجتهد لا سيب فيه وما اشتهر أنه شافعى  
فلما وافته إيهـة في المسائل المشهورة إلا ما وافقه للإمام الأعظم  
ليس أقل مها وافق الشافعى۔ (فیض الباری ج ۱ ص 58)

”جان بیجتے کہ امام بخاری بلاشبہ مجتہد ہیں اور یہ جو مشہور ہے  
کہ وہ شافعی تھے تو اس کی وجہ سائنس مشہورہ میں ان کی امام شافعی  
سے موافقت ہے ورنہ امام اعظم“ سے ان کی موافقت امام شافعی  
کے ساتھ موافقت سے کم نہیں۔“

مزید بر آن ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ :-

”صحیحین کی احادیث قطعیت کا فائدہ دیتی ہیں۔ حافظ ابن حجر،  
شیخ الائمه سرخی، ابن تیمیہ، ابن الصلاح کا یہی قول ہے۔“ و  
”هُنْ لَاءُ وَ إِنْ كَانُوا أَقْلَى عِدَّا، إِلَّا أَنْ رَايْهُمُ هُوَ الرَّأْيُ۔“

اور یہ کو تعداد کے اعتبار سے کم ہیں مگر بات اُنہی کی درست ہے۔“

(النیض ج ۱ ص ۴۵)

قابل غور بات یہ ہے کہ جب امام بخاری مجتہد ہیں۔ ان کی ”الجامع الصحيح“ کی احادیث قطعی اثبوت ہیں تو پھر ان احادیث کی صحت و سقم میں ان کی فتنہ کے اثرات کے کیا معنی؟ پھر جب امام بخاری کے بارے میں تسلیم کیا گیا کہ انہوں نے ”امام ابو حنفیہ“ کی کوئی کم موافقت نہیں کی۔ سوال یہ ہے کہ ان موقع میں بھی ان کے ”قلمی اثرات“ کو تسلیم کیا جائے گا یا نہیں؟ آخر شوافع وغیرہ کے مسائل سے موافقت میں یہی ”قلمی اثرات“ کیوں پائے جاتے ہیں؟ جب اختلاف کے خلاف روایات میں بھی ”قلمی اثرات“ اور شوافع کے خلاف روایات میں بھی ”قلمی اثرات“ پائے جاتے ہیں تو تکلیفے صحت بلکہ قطعیت بخاری کی حیثیت کیا رہی؟

امام ابو حنفیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد وغیرہ رحمہم اللہ بھی مجتہد تھے۔ حدیث کی صحت و سقم کے بارے میں ان کے فیصلوں میں بھی ان کے فتنہ و اجتہاد کے اثرات کو تسلیم کر لیا جائے گا؟ پھر یہ بات بھی کتنی عجیب ہے کہ اگر کسی مرسل، ضعیف، مجهول راوی کی روایت سے بھی۔ امام ابو حنفیہ، قاضی ابو یوسف، امام محمد، علامہ طحاوی استدلال کریں تو وہ صحیح۔ کیوں کہ ”الجهد اذا استدل بحديث كان تصحيحاً له“ مجتہد جب ایک حدیث سے استدلال کرتا ہے تو وہ روایت صحیح ہوگی۔ کتاب الأثار، امام محمد کی ہو، یا قاضی ابو یوسف کی۔ اسی طرح قاضی ابو یوسف کی کتاب الخراج الٹا کر دیکھ لیجئے آپ کو بہت سی احادیث و آثار ایسے ملیں گے جو سنداً ضعیف ہیں مگر ان سے استدلال کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود اصول یہ بنا لیا گیا کہ

”کل حدیث ذکرہ محمد بن الحسن الإمامزاد المحدث

الحافظ الطحاوی محتاجین به فهو حجة صحيحة على هذه الأصلـ

لکونهما محدثین مجتهدین“ جس حدیث کو امام محمد اور محدث طحاوی

احتاجاً ذکر کریں وہ اس قاعدے کی بنا پر جنت حیجہ ہے کیوں کہ وہ

دونوں محدث اور مجتہد ہیں۔ (انحصار الکتب ص ۱۶)

لیکن اگر امام بخاری وغیرہ حدیث کو صحیح کیں، ان سے استدلال کریں، ان کی کتاب

کو اصح الکتب اور اس کی احادیث کو قطعی اثبوت بھی تسلیم کیا جائے لیکن اس کے باوجود یہ بھی کہا جائے کہ ”سری فقہہم الی الحدیث“ حدیث میں ان کی فقه کے اثرات ہیں۔“ انصاف شرط ہے کہ دلوں میں کوئی بات درست ہے؟ ”خنی محمدین“ ضعیف روایت سے استدلال کریں تو خنی اصول بن جائے کہ وہ احادیث صحیح ہیں اور اگر امام بخاری وغیرہ صحیح حدیث ”الجامع الحسن“ میں ذکر کریں تو ان میں ان کی فقه کے اثرات قرار دے کر ناقابل اثبات نہ مرایا جائے ظلم کی بھی آخر کوئی حد ہوتی ہے۔

ذرا انصاف سمجھئے کہ اگر بات وہی ہے جسے آج ”کلمہ ذہبیہ“ قرار دیا جاتا ہے کہ امام بخاری وغیرہ نے اپنے مسلک اور نظریہ کے مطابق احادیث جمع کی ہیں اور اسی کے مطابق ان کی تصحیح و تغییف کی ہے تو پھر مستشرقین اور متكلّمین حدیث نے محدثین کے بارے میں کوئی نئی بات کہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ مربان حضرات محدثین کو مسلک کی حیثیت کا طعنہ دیتے ہیں اور وہ ان کی مساعی جمیلہ کو ”نظام ربویت“ اور ”قرآن“ کے خلاف ایک عجمی سازش باور کرانے پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔ کبرت کلمۃ تخرج من أنواههم راللهف - ۵) وَمَا تَحْفَى صَدْرُهُمْ أَكْبَرُ (آل عمران)

شیخ محمد عوامہ کی یہ منطق بھی عجیب ہے کہ

امام بخاری و مسلم“ کے علاوہ کچھ دیگر محدثین مثلاً امام ترمذی  
ابن الی شیبہ، عبدالرزاق، احمد ہیں جنہوں نے فریقین کی احادیث  
کو لانے کا الزام کیا ہے یوں سمجھئے کہ مثلاً ایک حکم کی دلیل امام  
بخاری“ نے بیان کی اور دوسرے حکم کی دلیل امام ابو داؤد“ نے، تو  
یہاں امام بخاری“ کی حدیث کو راجح قرار دنا صحیح نہیں کیوں کہ یہ  
”حقیقتہ“ دوسرے مذهب پر مذهب بخاری“ کو ترجیح ہے۔“ (اثر الحدیث ص 106)

شیخ محمد عوامہ کے ترکش کا یہ تیراس وقت بالکل ناکارہ ہو کر رہ جاتا ہے جب یہ جان لیا جاتا ہے کہ امام بخاری و مسلم“ نے تو صحت کا الزام کیا ہے۔ ان کے ”امام العصر“ فرماتے ہیں کہ صحیحین کی احادیث قطعی ہیں انہیں تلقی بالقبول حاصل ہے لیکن کیا یہ مقام و مرتبہ جامع ترمذی، سنن الی داؤد مصنف ابن الی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، مسنداً امام احمد“ کو حاصل ہے؟ اور ان کے مرتبین نے صحت کا الزام کیا ہے؟ قطعاً نہیں۔ جب یہ مسلمہ

حقیقت ہے تو پھر ان کی احادیث کو ”دوسرے مذاہب کی دلیل“ سمجھ کر جتنے تسلیم کر لیتا کہاں کا انصاف ہے؟ آپ پڑھ آئے ہیں کہ حضرت عقبہؓ کی حدیث صحیح ہونے کے باوجود علامہ عینیؓ اسے صرف اس بنا پر مرجوح قرار دیتے ہیں کہ اس کا مرتبہ صحت کے اعتبار سے صحیح بخاری کی حدیث سے کمتر ہے۔ ارجمند صحیحین پر بحث کے دوران علامہ لکھنؤیؓ لکھتے ہیں:-

”ولذا قال العضد في شرح مختصر ابن الحاجب السابع أى  
من وجوب الترجيح أن يكون مسندا إلى كتاب مشهور عرف  
بالصحة كبخاري ومسلم على ما لم يعرف بالصحة كسنن أبي  
داود.“ (الاجوبة الفاتحة ص 205)

اسی بنا پر (یعنی صحیحین کی حدیث دوسری حدیث سے راجح ہو گی کیونکہ صحیحین کی صحت پر اتفاق ہے) عضد نے شرح مختصر ابن الحاجب میں وجہ ترجیح کے اسباب میں ساتواں سبب یہ ذکر کیا ہے کہ وہ حدیث ایک مشہور کتاب کی ہو جو نسبت صحت سے معروف ہو جیسے صحیح بخاری اور مسلم ان کی حدیث راجح ہو گی۔ اس کتاب کی حدیث سے جو صحت میں معروف و متعارف نہیں جیسے سنن الی داؤد ہے۔

اندازہ فرمائیے علامہ لکھنؤیؓ نے کس قدر واشکاف الفاظ میں اپنے خلق بھائیوں کی غلط فہمی دور کر دی ہے مگر یہ حضرات محسن ذہنی تحفظات کی بناء پر جیلوں بھانوں سے اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں مگر الزام الثا امام بخاریؓ وغیرہ محدثین کو دیتے ہیں۔

## امام ابو حنیفہؓ کا اصول ترجیح

مولانا قاسمی لکھتے ہیں:-

”امام شافعی“ ”اصلح اسناداً“ (یعنی جو سند سب سے صحیح ہو) کو اختیار کرتے ہیں۔ امام مالک کے نزدیک سب سے ہے منجع عمل الہل مدینہ ہے۔ امام ابو حنفیہ قرآن و حدیث اور سنت مشورہ سے مستبط دینی اصول اور صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین کے فتویٰ و عمل سے مطابقت کو زبردست منجع تصور کرتے ہیں۔“ (بیانات جنوری 1990ء ص 23)

کاش مولانا قاسمی، امام ابو حنفیہ سے ”قرآن و حدیث اور سنت مشورہ سے مستبط دینی اصول“ کی نشاندہی کر دیتے۔ جنہیں انہوں نے بعض احادیث کو بعض پر ترجیح دینے کے لیے وضع کیا ہے۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جس طرح امام مالک کے نزدیک عمل مدینہ سب ترجیح ہے۔ امام ابو حنفیہ کے نزدیک عمل کوفہ باعث ترجیح ہے۔ جیسا کہ شاہ ولی اللہ محمدث بلوی نے بحثۃ اللہ البالغہ (ج ۱ ص ۱۴۵-۱۴۶) میں اس کی خوب وضاحت کی ہے۔

چنانچہ بحث کے اختتام پر فرماتے ہیں۔

كَانَ أَبُو حِينَفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلْزَمُهُمْ بِمَذْهَبِ إِبْرَاهِيمَ وَأَقْرَانَهُ  
لَا يَجِدُونَهُ إِلَّا مَا شاءَ اللَّهُ - كَمَا أَمَرَ اللَّهُ أَبُو حِينَفَةَ إِبْرَاهِيمَ خُنْقَى أَوْ أَنَّ كَمَا  
أَقْرَانَ كَمْذَهَبَ اخْتِيَارَ كَرَتَ تَحْتَهُ - أَوْ بَهْتَ كَمَّ أَنَّ سَعَيْتَ تَجَادُزَ كَرَتَ  
تَحْتَهُ -“

چند سطور کے بعد لکھتے ہیں کہ جن سائل یسیرہ میں امام ابو حنفیہ نے امام ابراہیم کی مخالفت کی ہے ان میں بھی وہ الہل کوفہ کے مذہب سے باہر نہیں گئے۔ ان کے الفاظ ہیں۔

”وَهُوَ فِي تَلْكُ الْيَسِيرَةِ أَيْضًا لَا يَخْرُجُ عِمَادَهُ بِإِلَيْهِ فَقَهَاءَ“

الکرفۃ: (بحثۃ اللہ ج ۱ ص 146)

لہذا یہ کہنا کہ امام صاحب خصوصاً خلفائے راشدین کے فتویٰ و عمل سے مطابقت کو زبردست منجع تصور کرتے تھے۔ ”محض مل کے بدلانے کو ایک خیال ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔“

بلاشبہ وجوہ ترجیح میں ایک سبب خلفائے راشدین کا عمل بھی ہے۔ لیکن اس اصول کی نسبت امام ابو حنفیہ کی طرف کرنا دعویٰ بلا برهان ہے۔ پھر علامہ حازیؒ نے اس سبب کو

اکیسوں نمبر پر ذکر کیا ہے مگر کیا ہم شیخ محمد عوامہ اور قاسی صاحب کے نقطہ نظر کے مطابق یہ دریافت کر سکتے ہیں کہ آپ اسے امام صاحب کے اختیار کردہ وجہ ترجیح میں اولین حیثیت سے پیش کرتے ہیں آخر کیوں؟

## خلفاء راشدین سے مخالفت کی چند مثالیں

حضرت شاہ صاحب کے موقف کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ بیسوں مسائل ایسے ہیں جن میں حدیث کی صحت کے ساتھ ساتھ خلفاء راشدین کا عمل بھی ان کا موید ہوتا ہے۔ مگر امام ابو حنفیہ (بلکہ حنفی نہ ہب) کا فتویٰ و فیصلہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ علامہ حازی اسی اصول کو ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”الوجه الحادی و الثلاثون أن يكون العدیثین قد عمل به  
الخلفاء والراشدون دون المثاني فيكون الکد ولذا قد مناہ وایه من  
دوی فی تکبیرات العیدین سبعا و خمسا على روایة من روایة من  
واربع الجنائز لأن الاول قد عمل به أبو بکر و عمر رضی اللہ عنہما  
فيكون إلى الصحة أقرب والأخذ به أصوب“ (الاعتبار ص ۱۷)

”اکیسوں وجہ یہ ہے کہ دو حدیثوں میں سے جس حدیث پر خلفاء راشدین نے عمل کیا ہو وہ راجح ہو گی۔ اس دوسری حدیث سے جس پر خلفاء راشدین کا عمل نہیں۔ اسی لیے ہم نے عیدین کی تکبیرات کے بارے میں اس روایت کو ترجیح دی ہے جس میں بارہ تکبیرات کا ذکر ہے۔ اس روایت پر جس میں جنازہ کی طرح چار تکبیروں کا ذکر ہے کیوں کہ پہلی حدیث پر حضرت ابو بکر اور عمر نے عمل کیا ہے۔ اس لیے وہ صحت کے زیادہ قریب اور عمل کے اعتبار سے زیادہ درست ہے۔“

علامہ شوکانیؒ نے حافظ عراقیؒ سے لفظ کیا ہے کہ اکثر صحابہ و تابعین کا یہی عمل ہے کہ عیدین کی بارہ تکبیریں ہیں حضرت عمر، علی، ابو ہریرہ، ابو سعید، جابر، ابن عمر، ابن عباس،

ابو ایوب، زید بن ثابت، عائشہ رضی اللہ عنہم کا بھی ملک ہے اور مدینہ طیبہ کے فتح میں  
بعد کا بھی اسی پر عمل تھا۔ (تلیج ۳ ص 217)

ہم یہاں مزید کسی تفصیل میں جائے بغیر صرف یہ بتانا چاہتے ہیں۔ خلفاء راشدین  
کا عمل، امام ابو حنیفہ اور حنفی مذہب کے خلاف ہے۔ امام صاحب "کا اصول کیا گیا؟

آپ پہلے ملاحظہ فرمائے چکے ہیں کہ "خیار مجلس" کے مسئلہ میں صحابہ کرام کا عمل کیا  
ہے۔ کوفہ میں سب سے پہلے اس سے اختلاف ابراہیم نجفی نے کیا اور پھر امام ابو حنیفہ اور  
فتح نجف کا فیصلہ ابراہیم نجفی کے قول کے مطابق ہے۔ خلفاء راشدین کا عمل کدھر گیا؟  
رجح میں حاجی اپنی قربانی ساتھ لے جائے۔ وہ اگر اونٹ ہوں تو قلادہ کے ساتھ ساتھ  
اس کی کوہاں پر نیزہ مار کر اسے خون آلودہ کر دیا چاہیے۔ جسے اصطلاحاً "اشعار" کہتے  
ہیں۔ یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ اونٹ قربانی کے لیے لے جائے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے  
میں حضرت عائشہ، ابن عباس، مسور بن مخرمہ وغیرہ صحابہ کرام کی احادیث صحاح اور سنن  
میں معروف ہیں۔ خلفاء راشدین کا اسی پر عمل تھا۔

صاحب ہدایہ علامہ مرغینیانی کا بیان ہے۔

"وعند الشافعی سنہ لأئمہ مروی عن النبی علیہ السلام و

عن الخلفاء الراشدین رضی عنهم وآئیہ ج ۱ ص 262)

"کہ امام شافعی کے نزدیک "اشعار" سنت ہے کیونکہ یہ نبی  
صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین سے مروی ہے۔"

مگر امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ "اشعار" مکروہ ہے۔ (ہدایہ ج ۱ ص 262، الجامع  
الصغير محمد بن الحسن ص 119)

حالانکہ خود ان کے شاگر رشید قاضی ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی نے ان  
سے اتفاق نہیں کیا۔ علامہ ابن حزم نے المحل (ج ۷ ص 111-112) میں امام ابو حنیفہ پر بڑی  
شدید تکیت چینی کی ہے اور کہا ہے کہ "لَا يعلَم لِذَبِي حِينِيَّةٍ فِيهَا مُتَقدِّمٌ مِنَ السَّلْفِ" کہ  
امام ابو حنیفہ سے پہلے یہ قول کسی سلف سے منقول نہیں۔ اور یہی بات علامہ خطابی نے  
بھی کہی ہے مگر حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ ترمذی میں یہی قول ابراہیم نجفی سے بھی منقول  
ہے لہذا ابن حزم اور خطابی کا دعویٰ درست نہیں۔ (فتح الباری ج ۳ ص 544) لیکن ترمذی

میں ابراہیمؐ کی طرف اس کا انتساب محل نظر ہے جبکہ اس کے الفاظ یوں ہیں۔

قال وکیع لاتسنظروا إلی قول أهل الرأی فی هذ افای الإشعار  
سنة وقولهم بدعة قال وسمعت أبا السائب يقول لنا عند وکیع  
فتال لرجل من ينظر فی الرأی أشعر رسول الله صلی اللہ علیہ  
وسلم ويقول ابو حنیفة هو مثله قال الرجل فی انه قد روی عن ابراہیم  
النخعی انہ قال الإشعار مثله قال فرأیت وکیعا غضب نسبا شدیدا  
وقال أقول لك قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وتفعل قال  
إبراہیم ما أحقك بآن تحسس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا

(جامع ترمذی ج 2 ص 106-107. مع تحفہ الا حوزی)

”امام وکیعؓ نے کما تم اہل الرأی کے قول کی طرف التفات  
نہ کرو۔ ”اشعار“ سنت اور ان کا قول بدعت ہے میں نے ابو سائبؓ  
سے نافرماتے تھے کہ ہم امام وکیعؓ کے پاس تھے۔ انہوں نے اہل  
الرأی سے تعلق رکھنے والے سے کما کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم  
نے اشعار کیا ہے اور ابو حنیفہؓ کہتے ہیں وہ مسئلہ ہے تو اس آدی  
نے کما کہ ابراہیمؓ نخعیؓ سے بھی مردی ہے کہ اشعار مثلہ ہے۔ ابو  
سائبؓ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام وکیعؓ بڑے ناراض ہوئے  
اور فرمایا، میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔  
اور تم کہتے ہو، ابراہیمؓ نخعیؓ نے یہ کہا ہے۔ تو اس بات کا بڑا حقدار  
ہے کہ تجھے جیل خانے میں بند کر دیا جائے اور اس وقت تک قید  
میں رکھا جائے جب تک توبہ نہ کرے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں ابراہیمؓ نخعیؓ کا قول پیش کرنے کی جارت

پر امام وکیعؓ کی ناراضی حق پر منی ہے۔ اس لیے فوراً ”اسے ڈانت پلائی۔“ مگر دیکھنا یہ ہے  
کہ یہ ”الرجل“ کون ہے اور کیا ہے؟ اس کی ملاقات ابراہیمؓ سے ہے یا نہیں۔ جب  
اس کا کوئی اٹے پڑتے نہیں تو پھر اس کی بنیاد پر اس قول کو ابراہیمؓ کی طرف منسوب کرنا محل  
نظر ہے اور اس سے حافظ ابن حزمؓ اور امام خطابیؓ کی تردید مشکل ہے۔

علی وجہ اسلام اگر بھی قول ابراہیمؑ نجی کا بھی ہو تو حدیث اور خلفائے راشدین کا عمل برعکس ان کے مخالف ہے۔ اصول کماں گیا؟

بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ اس مسئلہ پر صحابہ کرامؐ کے اجماع کا اعتبار اس بنا پر نہیں کیا گیا کہ ابراہیمؑ نجی کا قول ان کے مخالف ہے۔ علامہ سرخیؒ فرماتے ہیں کہ:-

”ولهذا قال أبو حنيفة لا يثبت إجماع الصحابة في الإشعار“

لأن إبراهيم النجعى كان يكرره“ (ارشاد النحو مص 77)

”اس لیے امام ابو حنیفہ“ نے کہا ہے کہ ”اشعار“ کے بارے میں صحابہؓ کا اجماع ثابت نہیں کیونکہ ابراہیمؑ نجی اسے کمرہ سمجھتے تھے۔“

حالانکہ امام صاحب نے یہ نہیں کہا، صرف ان کے طرز عمل سے یہ سمجھ لیا گیا کہ ”اشعار“ میں اجماع صحابہؓ نہیں ہے۔ ”اجماع صحابہؓ“ کے وقت ابراہیمؑ نجی درجہ اجتہاد پر فائز تھے؟ صحابہؓ سے ان کے استفادہ کی پوزیشن کیا ہے؟ اور یہ اصول بھی کس حد تک درست ہے؟ ان مباحث سے قطع نظریہ دیکھئے کہ خلفائے راشدین کا عمل حدیث کے موافق ہے اور امام ابو حنیفہؓ اس کے مخالف ہیں۔ امام صاحبؓ کے وقایع میں علامہ طحاویؒ وغیرہ نے جو توجیہات کی ہیں وہ سب معلوم، مگر یہ بھی پیش نظر رہے کہ ان کے اپنے جلیل القدر شاگردوں نے کس دلیل کی بنا پر ان سے اختلاف کیا؟ علامہ لکھنؤیؒ نے امام طحاویؒ کی توجیہ کی تحسین کے باوجود کہا ہے کہ ”یہ بھی احتمال ہے کہ امام صاحبؓ کو اشعار کی صحیح حدیث نہ پہنچی ہو۔“ (حاشیہ ہدایہ ج 1 ص 262)

اسی طرح مفقود الخبر کے بارے میں حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت عثمانؓ کا فیصلہ معروف ہے۔ مگر امام ابو حنیفہؓ ان سے متفق نہیں۔

اسی طرح زانی غیر شادی شدہ ہوتا سے کوڑے مارنے کے ساتھ ساتھ ایک سال جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہؓ عبادہ بن صامتؓ زید بن خالد کی احادیث صحابہ و سنن میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ خلفائے راشدین کا انسی احادیث پر عمل تھا۔

(جامع ترمذی ج 2 ص 326)

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں۔

” وقد أدعى محمد بن نصر في كتاب الإجماع الإنفاق على  
نفی زانی البکر لاعن الكوفین ..... و قال ابن المنذر أقسم النبي  
صلی الله علیہ وسلم فی قصّة العسیف أَنَّهُ يَقْضِی بِكِتابِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ  
إِنَّ عَلَيِّ جَلْدٌ مَائَةٌ وَتَغْرِيبٌ عَامٌ وَهُوَ أَبْعَدُ  
خُطْبَ عُمَرَ بْنِ الْكَاظِمِ عَلَى رُؤُسِ النَّاسِ وَعَمِلَ بِهِ الْخُلُفَاءُ الْوَاسِدُونَ  
وَلَمْ يَنْكِرْهُ أَحَدٌ فَكَانَ إِجْمَاعًا -“

(فتح الباري ج 12 ص 157- نيل ج 7 ص 93)

”محمد بن نصر“ نے ”كتاب الاجماع“ میں دعویٰ کیا ہے کہ غیر  
شادی شدہ زانی کو جلاوطن کرنے پر کوئین کے علاوہ دیگر اہل علم کا  
اتفاق ہے۔ اور ابن المنذر نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے  
عسیف“ کے واقعہ میں حلفاء فرمایا تھا۔ کہ میں کتاب اللہ کے مطابق  
فیصلہ کروں گا۔ پھر آپ نے اسے سو درے مارے اور ایک سال جلا  
وطن کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کے اجمال کی تبیین  
و توضیح فرماتے تھے۔ حضرت عمر نے بر سر منبر اس کے بارے میں  
خطبہ ارشاد فرمایا۔ اسی پر خلفائے راشدین کا عمل رہا اور کسی نے  
انکار نہیں کیا تو یہ اجماع ہو گیا۔“

مسئلہ کے ہر پہلو پر بحث مقصود نہیں اور نہ فریقین کے دلائل کے بیان ہی کی یہاں  
ضرورت ہے۔ بتانا صرف اسی تدریج ہے کہ اس مسئلے میں حدیث کے مطابق خلفائے  
راشدین کا عمل ہے امام ابو حنیفہ کا اصول کماں ہے؟  
ایک رکعت و تر کے بارے میں فہماء کے مابین اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ جواز کے  
قابل نہیں۔ امام محمد بن نصر المرزوqi لکھتے ہیں۔

”الوتر بر کعۃ واحدۃ کان ذالک و ترس رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و ابی عثمان قرء القرآن فی رکعۃ او تر  
بہا“ و عن علی کذلک (قام اللیل ص 205)

”ایک رکعت و تر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر کا

طریقہ تھا۔ حضرت عثمان نے وتر کی ایک رکعت میں مکمل قرآن پڑھا  
اور یوں ہی حضرت علی سے مروی ہے۔“

غور فرمائیے۔ حدیث کے مطابق خلفاء راشدین کا عمل کیا ہے مگر امام ابو حنیفہ کا  
فیصلہ کیا ہے۔ اصول آخر کماں ہے؟

اسی طرح حدیث ”لانکاح الابولی“ زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ اور حدیث مزارعۃ  
کے مطابق خلفاء راشدین کا فتویٰ کتب احادیث و آثار میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مگر امام ابو  
حنیفہ یہاں بھی ان کے خلاف ہیں۔ آخر کماں تک لکھوں، اسی سلسلے میں اور کئی مثالیں  
موجود ہیں۔ خلفاء راشدین کا عمل ”زبردست منع“ کماں اور کیسے بنائے؟ اسے کہتے ہیں۔  
ہاتھی کے دانت دکھانے اور کھانے کے اور۔

الغرض اولاً“ اس اصول کا انتساب امام صاحب کی طرف درست نہیں۔ (ثانیاً) ان  
کا طرز عمل خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخربین کی اختراع ہے۔ جیسا کہ شاہ ولی اللہ  
نے عموماً ”خنی اصول کے بارے میں فرمایا ہے (ججۃ اللہ ج ۱ ص ۱۶۰) اور صراحت کی ہے  
کہ ان کے نزدیک عموماً ”عمل اہل کوفہ“ اصل الاصول ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے نقل کر  
آئے ہیں۔ خلفاء راشدین کا عمل نہیں۔

### اختلاف کا چوتھا سبب

مولانا قاسمی رقطراز ہیں:-

”اختلاف ائمہ کا چوتھا سبب فن حدیث میں ان کی وسعت اور  
ذخیرہ روایات کا تفاوت ہے۔ کسی بڑے سے بڑے امام یا محدث کے  
بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے ذخیرہ حدیث کا مکمل  
احاطہ کر لیا تھا۔“ الحج (بیانات ص ۳۴)

یہ بات شیخ محمد عوامہ نے بھی کہی ہے اور علامہ ابن عبد البر، شیخ الاسلام ابن تیمیہ  
وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ ہر صحیح حدیث تمام ائمہ دین یا فلاں امام کو پہنچی  
ہے وہ فاش غلطی کا مرکب ہے۔ (اثر الحدیث الشریف ص ۱۱۳)

## بہت سی احادیث سے ائمہ بے خبر ہے

لا ریب یہ بات بجا اور ایک حقیقت ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فقہاء کے مابین اختلافات کے اسباب میں سب سے پہلا سبب یہی ذکر کیا ہے اور لکھا ہے:-  
”وَهُذَا السببُ هُوَ الْعَالِبُ عَلَى أَكْثَرِ مَا يُوجَدُ مِنْ أَقوالٍ“

السلف مخالف البعض الأحاديث

”أَكْثَرُ وَبِشْرَتُ سلفَ كَيْمَةِ أَقْوَالٍ جَوَّبَ بَعْضَ احْادِيثَ كَيْمَةً مُخَالِفَةً“

جاتے ہیں اس کا غالب سبب یہی ہے۔“ (رفع الملام ص ۶)

حافظ ابن حزمؓ نے الاحکام (ج ۲ ص 125-126) میں بھی پہلا سبب یہی ذکر کیا ہے اور اس کی چند مثالیں بھی بیان کی ہیں۔ کسی امام کے بارے میں یہ کہنا کہ انہیں یہ حدیث نہیں ملی اس میں سوء ادب ہے نہ کوئی کسر شان، بلکہ حسن اور حسن ادب کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی صحیح صریح حدیث کسی امام کے فتوے یا عمل کے خلاف نظر آئے تو اس کا ایک محمل یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ حدیث انہیں نہیں ملی۔ ورنہ وہ اس کی قطعاً ”مخالفت نہ کرتے۔ علامہ شعرائی لکھتے ہیں۔

”إِنَّمَا الْأَدْبُ أَنْ تَقُولَ وَلَمْ يُطْلَعْ إِلَيْهِ الْإِمَامُ عَلَى هَذِهِ الْحَدِيثِ“

کہ ادب یہی ہے کہ ایسے موقعہ پر کہا جائے امام اس حدیث پر مطلع نہیں ہو سکے۔ (المیزان الکبری ج ۱ ص 63)

نیز فرماتے ہیں کہ:-

”ہر مقلد پر واجب ہے کہ عزیمت پر عمل کرے اگرچہ وہ عمل اس کے امام کے قول و عمل کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ باخصوص جبکہ دوسرے امام کی دلیل قوی ہو۔ اور بعض مقلدین کے قول کہ اگر بخاری اور مسلم کی حدیث پر میرے امام نے عمل نہیں کیا تو میں بھی اس پر عمل نہیں کروں گا، کے برعکس عمل کرے۔ اس مقلد کا یہ قول شریعت سے ناواقفیت پر مبنی ہے اور اس سے سب سے پہلے اسی کے امام بیزاری کا اظہار کریں گے۔ اس پر

واجب یہ تھا کہ وہ اپنے امام کے بارے میں یہ کہتا کہ انہیں یہ حدیث نہیں ملی یا ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں۔ ”ملحما“

(المیزان ج ۱ ص ۱۰)

بات واضح ہے کہ اس میں سوء ادب نہیں بلکہ ادب کا ایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی حدیث کسی امام کے قول و عمل کے مقابل پائی جائے تو اس کا ایک سبب یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ یہ حدیث امام صاحب کو صحت سند سے نہیں ملی۔ مگر چونکہ امام نسائی اور امام عبد اللہ بن مبارک وغیرہ نے امام ابو حیفہ کو ”قلیل الحدیث“ ”یتیم فی الحدیث“ ”مسکین فی الحدیث“ کہا ہے اسی لیے بعداً قصور کی داڑھی میں تنک شیخ محمد عوامہ اور مولانا قاسم صاحب نے امام صاحب کی معرفت حدیث کے سلسلے میں بہت کچھ لکھنے کی ضرورت محسوس کی۔ جس کا جائزہ یہاں المذاہب کا باعث ہوا۔ زیر بحث عنوان سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں اس لیے ہم اس سلسلے میں ان کی تکاریقات سے صرف نظر کرتے ہیں۔

البتہ اس بات کی طرف قارئین کرام کی توجہ ضرور مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ ایک طرف تو شیخ محمد عوامہ امام نسائی کی جرح کے جواب میں حافظ ابن حجر سے یہ نقل کرتے ہیں کہ امام صاحب کے نزدیک روایت کی بڑی سخت شرط تھی کہ راوی کو تحمل (سننے) سے لے کر ادا (بیان) تک وہ حدیث یاد ہو جس کی بنا پر انہوں نے احادیث کم روایت کی ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں۔

”إِنَّهُ كَانَ يُوْسُفُ أَنْ لَا يَجِدُهُ إِلَّا بِسَاحِفَةٍ مَذْسُومَةٍ إِلَى أَنَّ

أَدَاهُ فَلَهُذَا قُلْتَ الرِّوَايَةُ عَنْهُ“، الخ

(اثر الحدیث ص ۱۱۷ بحول الله الجواہر و الدرر للخواوی)

مگر دوسری طرف علامہ علیؒ قاری کی المناقب (ج ۲ ص ۴۷۴) سے نقل کرتے ہیں کہ محمد بن سعیدؒ کا بیان ہے کہ:-

”أَنَّ أَبْيَاحِنِيَّةَ ذُكْرٌ فِي تَصَانِيفِهِ نِفَاقٌ وَ سَبْعِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ وَ

انْتَخَبَ الْأَثَارُ مِنْ أَرْبَعِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ“

”امام ابو حیفہؒ نے اپنی تصانیف میں ستر ہزار سے اوپر احادیث

ذکر کی ہیں اور ”كتاب الأثار“ کو چالیس ہزار احادیث سے منتخب کیا

ہے۔ (اثر الحدیث ص 117)

یہ نہیں بلکہ آئندہ ص 134 پر شیخ موصوف فرماتے ہیں کہ آج سنت کا سب سے بڑا ذخیرہ کنز العمال ہے۔ جس میں بیشول مکرات سینتا ہیں ہزار ہے کچھ زائد احادیث ہیں اور کنز العمال کی تعداد حدیث کسی قدر کم ہو جاتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب کی تصانیف میں ستر ہزار سے زائد احادیث تھیں اور صرف "کتاب الادار" کو چالیس ہزار احادیث سے منتخب فرمایا تھا۔" (ملحنا)

بلکہ وہ یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ سعیٰ بن نصر کا بیان ہے کہ میں امام ابو حنیفہ کے ہاں گیا۔ ان کا مکان کتابوں سے بھرا پڑا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا۔ "ہذہ احادیث کلہا۔" یہ تمام احادیث کی کتابیں ہیں میں صرف انہیں احادیث کو بیان کرتا ہوں جن سے لوگ نفع انداز ہوتے ہیں۔"

(اثر الحدیث ص 117 بحوالہ عقود الجواہر)

اس تفصیل سے قطع نظر کہ محمدؐ بن سعید اور سعیٰ بن نصر کا یہ بیان سنداً صحیح ہے یا نہیں۔ قابل غور یہ بات ہے کہ ستر ہزار سے زائد احادیث کے ذخیرہ میں سے انہوں نے وہی روایات بیان کیں۔ "جن سے لوگ نفع انداز ہوتے تھے۔" اور ان کی تعداد کتاب الادار امام محمدؐ میں نو سو سے کم اور قاضی ابو یوسف کے "لغہ" میں ایک ہزار سرٹھ (1067) ہے۔ اور اس تعداد میں وہ متعدد روایات بھی شامل ہیں جنہیں امام محمدؐ اور قاضی ابو یوسفؐ نے اپنے دوسرے شیخ سے بیان کیا ہے۔ اور ان میں بھی اکثر و پیشتر موقف روایات ہیں۔ مرفوع روایات نبتاً کم ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ستر ہزار سے زائد روایات میں "نفع انداز" ہونے والی صرف اسی قدر روایات ہیں؟

(ثانیاً) حافظ ابن حجرؓ کے اس فرمان سے کہ "امام صاحب" کے نزدیک روایت بیان کرنے کی بڑی سخت شرط تھی ورنہ ان کے ہاں روایات کی کی نہ تھی۔ "شیخ محمد عوامہ بڑے خوش ہیں کہ اس سے امام نسائیؓ کی جرح "قلیل الحدیث" کا جواب مل گیا۔ مگر انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ حافظ ابن حجرؓ کے اس قول سے "قلیل الحدیث" کا جواب تو ہو گیا لیکن اس سے تو امام نسائیؓ وغیرہ کی اس جرح کی تائید ہو جاتی ہے کہ ان کا حافظہ کمزور تھا یعنی وہ "سیئی الحفظ" تھے۔ تبھی انہوں نے اپنی شرط کے مطابق قلیل تعداد

میں وہی روایات بیان کیں، جو انہیں یاد تھیں۔ اور ان کے بیان میں بھی ان سے غلطیاں ہو جاتی تھیں۔ اگر شیخ موصوف اس طرف توجہ فرمائیتے تو یقیناً اسے نقل کرنے سے اجتناب کرتے اور کاش کہ موصوف اس بات کی عقدہ کشائی بھی کر دیتے کہ امام صاحب نے جو "اپنی تصانیف" میں ستر ہزار سے زائد احادیث ذکر کی ہیں۔ وہ انہوں نے شیوخ کے نسخوں سے نقل کی تھیں یا شیوخ سے مسموع روایات کو قلم بند کیا تھا۔ امام صاحب "اجازہ" کو تو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ (دریب الرادی، ج ۲ ص ۳۰) جس کا اعتراض خود شیخ محمد عوامہ نے بھی کیا ہے۔ (اثر الحدیث ص ۱۱۲) لذا اگر شیوخ سے سنی ہوئی روایات کسی تھیں تو وہ کیا یاد تھیں یا نہیں؟ یاد تھیں تو سچے حافظ ابن حجر کے دفاع کی پوزیشن کیا رہ جاتی ہے؟ بصورت دیگر ان کی روایات میں غلطی و خطأ کا وجود جیسا کہ امام ابن عدی اور امام ابن حبان وغیرہ نے کہا ہے درست اور مبنی برحقیقت نظر آتا ہے۔ انصاف فرمائیے کہ آخر اس اصول اور اس کی روشنی میں قلت روایت کے دفاع کی پوزیشن کیا ہے۔ اس سلسلے کی اور بست سی دلچسپ باتیں بھی ہیں مگر ان کا اصل موضوع سے کوئی تعلق نہیں اس لیے ہم اسے نظر انداز کرتے ہیں جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر آئے ہیں۔ شیخ محمد عوامہ نے کہا ہے کہ

"میں نے اکثر اہل علم کے بر عکس اس سبب کو اس لیے موخر کیا ہے کہ اکثر لوگ جلدی میں حدیث کا تبع کے بغیر کہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث فلاں امام کو نہیں ملی، مگر حقیقت اس کے بر عکس ہوتی ہے۔ مثلاً امام الحرمین" اور امام غزالی نے کہا ہے۔ کہ حدیث "الولد لله فراش" امام ابو حنیفہ کو نہیں ملی۔ حالانکہ یہ حدیث تو امام صاحب کی مند میں موجود ہے۔

(اثر الحدیث۔ ص ۱۲۶-۱۲۷)

بلاشبہ کسی امام کے متعلق یہ کہنے میں قطعاً جلدی نہیں کہنی چاہیے کہ یہ حدیث انہیں نہیں ملی۔ مگر امام الحرمین اور امام غزالی کے دعوے کے بر عکس جس روایت کو ذکر کیا گیا ہے۔ وہ دو اعتبار سے محل نظر ہے۔ اولاً امام غزالی اور امام الحرمین کا شمار گو نامور فقیاء و اصولیں میں ہوتا ہے مگر علم حدیث میں ان کا درجہ و مرتبہ مسلم نہیں۔ حافظ ابن

جس نے "اللجمیس" میں ایک سے زائد مقامات پر اسی بات کی وضاحت کی ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر لکھتے ہیں۔

"ادعى امام الحرمین في النهاية أن ذكر نفي المطر لم يرد في متن الحديث وهو دال على عدم مراجعته للكتب الحديثة"

الشهورۃ فضلا عن غيرها" (اللجمیس ص ۱۳۱ ط ہند)

"امام الحرمین" نے "النهاية" میں دعویٰ کیا ہے کہ جمع ملاۃ کے بارے میں حدیث کے کسی متن میں بارش کی نفی کا ذکر نہیں (یعنی صرف "بغير خوف" ہے "ومطر" کہیں نہیں) اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے دوسری عام کتب احادیث تو کجا کتب مشورہ کی مراجعت بھی نہیں کی۔"

اسی طرح ایک بحث کے دوران امام الحرمین اور امام غزالی پر تقدیم کرتے ہوئے لکھتے

ہیں۔

"هذا دليل على عدم اعتناكم بما في الحديث"

"یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان دونوں کا حدیث سے کوئی

لکاؤ نہ تھا۔" (اللجمیس ص ۱۱۸)

علامہ لکھنؤی لکھتے ہیں۔

"الدستی إلى صاحب إحياء العلوم مع جلاله قدره وأوردنی

كتابه أحاديث لا أصل لها فلم يتعبر بها كما يظهر من مطالعة

تغريب أحاديثه للحافظ العراقي" رد عالي الخوان عاصم الدهف

آخر جمعتة رمضان (ص ۸۵ مجموعۃ الرسائل المطبوعہ ۱۹۱۹)

"آپ احیاء العلوم کے مصنف (امام غزالی) کی طرف نہیں

دیکھتے۔ جہالت قدر کے باوجود وہ اپنی کتاب میں بے اصل روایات

لائے ہیں جن کا کوئی اعتبار نہیں۔ جیسا کہ حافظ عراقی کی تحریک احیاء

العلوم سے ظاہر ہوتا ہے۔ (۱)

قارئین کرام انصاف فرمائیں کہ جب حدیث کے بارے میں امام غزالیٰ اور امام انھین کی یہ پوزیشن ہے تو پھر ان کے دعویٰ کی تردید کر کے سادہ لوح حضرات کو یہ تاثر نہ کمال تک صحیح ہے کہ جب امام الحرمینؒ اور امام غزالیؒ جیسے کہتے ہیں کہ امام ابو حنفہؓ کو فلاں حدیث نہیں ملی۔ حالانکہ وہ روایت ان کی اپنی سند میں موجود ہے تو پھر کسی ماوشائی کی بات کا کیا اعتبار ہو گا۔ اور اس کے دعویٰ کی طرف التفات کیوں نہ کرو گا؟

(ثانیاً) یہ کہنا کہ یہ روایت تو ”سنده الی حنفیہ“ میں موجود ہے اور امام صاحب نے اسے حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عمرؓ کی سند سے روایت کیا ہے اور حضرت عمرؓ کے علاوہ اس سند کے باقی رواۃ کوفہ کے انہے فتناء میں شمار ہوتے ہیں۔ ”وهدذا إسناد مسلسل بائیۃ الفقهاء الکوفہ إلی عمر“ (اثر الحدیث ص 127)

مگر یہ دعویٰ صحیحی درست ہو سکتا ہے جب اس کی نسبت امام ابو حنفہؓ کی طرف صحیح ثابت ہو۔ یہ روایت ابو محمد عبدالله بن محمد یعقوب الہواریؑ نے ”سنده الی حنفیہ“ میں ذکر کی ہے اور علامہ الخوارزیؑ نے بھی اسے جامع المسانید (ج 2 ص 105-106) میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے۔ ”آخرجهه أبو محمد الہواری عن أبي سعید بن جعفر عن یحییٰ بن فروخ عن محمد بن بشر عن أبي حنینة“ ابو محمد عبدالله بن محمد الہواریؑ جو ”سنده الی حنفیہ“ کا اصل مصنف ہے۔ محمد شین کے نزدیک ضعیف اور وضناع ہے۔ اور کوئی ایک قابل اعتبار قول اس کی توثیق و تتعديل میں انہے جرح و تعدیل نے لقل نہیں کیا۔ ابو سعیدؓ الرواس فرماتے ہیں کہ وہ وضع حدیث سے متمم ہے۔ احمد سیلمانیؑ کا فرمان ہے کہ وہ ایک سند دوسرے متن سے اور ایک متن کسی اور سند سے لگایا کرتا تھا۔ اور یہ بھی وضع حدیث کی ایک قسم ہے۔ امام حاکمؓ فرماتے ہیں وہ صاحب عجائب و افراد ہے خطیب بندادی فرماتے ہیں وہ صاحب عجائب و غرائب اور مناکیر ہے۔ قابل احتجاج نہیں۔ ابو زرعؓ رازی فرماتے ہیں۔ وہ ضعیف ہے۔ (میزان، ج 2 ص 496۔ لسان ج 3 ص 349) لذا جب ”سنده الی حنفیہ“ کا یہ

### حاشیہ صفو گذشتہ

(۱) اس سلسلے کے لیے مزید ملاحظہ ہو ”احادیث ہدایہ فلسفی و تحقیقی حیثیت“ مطبوعہ ادارہ العلوم الالٹریو (۱)

جامع ابو محمد الحارثی ہی ضعیف اور وضایع ہے تو اس کی بیان کردہ روایت کیوں کر قابل اعتبار ہو سکتی ہے؟

ابو محمد حارثی کے علاوہ اس کا استاد محمد بن محمد البخاری کون ہے؟ حافظ ابن حجر نے لسان المیراث (ج ۵ ص 359-360) میں محمد بن محمد بن یوسف المقری ابو بکر البخاری الجنابی ایک راوی کا ذکر کیا ہے۔ جس کے بارے میں امام ابو بکر المقری فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے عراق میں قرات کس سے پڑھی ہے تو اس نے کہا ”ابن مجاهد“ سے میں نے کہا کیا تم نے ابن مجاهد سے ان کے بوڑھاپے میں جبکہ انہوں نے عصا پکڑ لیا تھا۔ اس وقت پڑھا ہے یا اس سے پہلے؟ تو اس نے کہا جب انہوں نے عصا پکڑ لیا تھا بلکہ وہ بغیر عصا کے باہر نکلتے ہی نہیں تھے۔ امام ابو بکر فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اللہ کی قسم! ابن مجاهد نہ سفید ریش ہوئے تھے اور نہ انہوں نے کبھی عصا پکڑا تھا۔“ اس واقعہ سے ”محمد بن محمد البخاری“ کا کذب ہونا بالکل واضح ہے۔ اگر اس کے علاوہ محمد البخاری کوئی اور راوی ہے تو بتلایا جائے وہ ثقہ ہے؟

اسی طرح اس کا تیسرا راوی ”ابو سعید بن جعفر“ ہے۔ جس کا نام ”اباء بن جعفر“ ہے جس کے بارے میں امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ میں نے اسے دیکھا ہے اس نے امام ابو حنیفہ کا نام لے کر تین سو سے زائد احادیث وضع کی ہیں۔ جنہیں امام ابو حنیفہ نے قطعاً بیان نہیں کیا۔ ایک ایسی حدیث جب اس نے بیان کی۔ تو میں نے کہا اے شیخ اللہ سے ڈردا اور جھوٹ نہ بولو۔ حسن بن علی فرماتے ہیں کہ وہ حدیثیں وضع کیا کرتا تھا۔ (لسان ج ۱ ص ۲۷، الجروہ میں ج ۱ ص ۱۸۴، میزان الاعتدال ج ۱ ص ۱۷)

بعض نے اس کا نام ”ابان“ بھی بیان کیا ہے۔ حافظ ذہبی نے المغنى، ج ۱ ص ۶ میں اسی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے۔ ”کذاب“ کہ وہ جھوٹا ہے۔ نیز دیکھئے لسان، ج ۱ ص ۲۱ اسی ”عمران“ نے امام ابو حنیفہ کے واسطہ سے یہ روایت بھی گھری کہ حضرت عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”الوَتْرُ أَوْلُ اللَّيْلِ مَسْخَطَةُ الشَّيْطَانِ وَأَكْلُ السَّحُورِ مَرْضَاةُ الدُّرْحَانِ“

یہ روایات بھی ابو محمد الحارثی نے ”مسند ابی حنیفہ“ میں ذکر کی ہے جسے علامہ الخوارزمی نے جامع المسانید، ج ۱ ص 303 میں ذکر کیا ہے۔ حالانکہ یہی وہ روایت ہے جسے امام ابن

جان نے "ابو سعید" سے من کر فرمایا تھا۔ "اتق اللہ ولاتکذب" کہ اللہ سے ذرو جھوٹ نہ بولو۔ اسی روایت کو امام ابن جوزی نے الم موضوعات ج 2 ص 111 میں ذکر کیا ہے اور کما ہے۔ "حداحدیث و ضعف ابیان بن جعفر" کہ اسے ابیان بن جعفر نے گھڑا ہے اور اسی کو علامہ سیوطی نے الالائی المصنوعۃ (ج 2 ص 23) میں علامہ شوکانی نے الفوائد المجموعۃ (ص 58) میں، علامہ طاہر قنی نے تذکرۃ الموضوعات (ص 48) میں، علامہ ابن عراق نے تنزیہ الشریعۃ (ج 2 ص 80) میں ذکر کیا ہے اور اسے موضوع قرار دیا ہے۔ ایسے کذاب اور وضاع کی وضع کردہ روایت کو "مسند ابی حنفیۃ" میں شمار کرنا بڑے دل کردہ کام ہے ایسی ہی روایات کی بھرمار کی بنا پر شاہ ولی اللہ محدث ربوی نے جامع المسانید کو کتب احادیث کے "طبقہ رابعہ" میں شمار کیا ہے۔ اور کما کہ حافظ ابن جوزی کی "الموضوعات" کا مأخذ اسی طبقہ کی کتابیں ہیں۔ (تجہۃ اللہ ج 1 ص 135)

اسی روایت کا چوتھا راوی "سخی بن فردخ" ہے غالباً یہ "سخی بن سعید بن فردخ" ہیں اور لفظ امام ہیں ورنہ سخی بن فردخ مجہول ہے۔ کہیں اس کا ترجمہ ہماری نظر سے نہیں گزرا۔

قارئین کرام انصاف فرمائیں کہ جب اس سند کی پوزیشن یہ ہے کہ "ابو محمد الحارثی" وضناع، اس کا استاد بھی کذاب یا مجہول پھر اس کا استاد بھی کذاب اور وضناع ہو تو اس کا انتساب امام ابو حنفیۃ کی طرف کیوں کر درست ہو سکتا ہے اور اس کی بنیاد پر امام الحرمین اور امام غزالی کی تردید کیوں کر ہو سکتی ہے؟ یہی روایت "جامع المسانید" (ج 2 ص 53, 54, 55) میں حضرت ابو امامہ سے بھی منقول ہے۔ علامہ زیلیقی نے اس کا تذکرہ نصب الرایہ (ج 3 ص 237 ج 4 ص 55-56) میں کیا اور جامع تنفی، ابو داؤد طیالسی، احمد اور دارقطنی وغیرہ کا حوالہ دیا ہے مگر "مسند ابی حنفیۃ" کا نہیں۔ اگر شیخ محمد عوامہ اس روایت کا حوالہ دیتے تو ہم بھی اپنی معروضات قارئین کی خدمت میں پیش کر دیتے۔

امام الحرمین اور امام غزالی کی تردید سے جو تاثر شیخ محمد عوامہ دیتا ہے ہیں اسی کو مزید مخلکم کرنے کے لیے لکھتے ہیں۔

"اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے امام کی تمام کتابوں کا تتعق کیا ہے اور ان میں مطلوبہ حدیث نہیں ملی تو اس سے یہ نہیں سمجھتا چاہیے"

کہ اس روایت کا امام صاحب کو علم نہیں۔ کیا اگر آپ کوئی حدیث صحیح بخاری، مسلم میں نہ دیکھیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث کا امام بخاری و امام مسلم کو علم نہیں تھا؟“  
(ملخصاً ص ۱۲۷ اثر الحدیث)

حالانکہ امام بخاری کا علم صرف صحیح بخاری اور امام مسلم کا صرف صحیح مسلم میں نہیں۔ ان کے علاوہ بھی ان کی تصانیف موجود ہیں۔ ان تمام کا تقبیح کئے بغیر یہ کیوں کر کما جا سکتا ہے کہ امام بخاری یا امام مسلم کو اس کا علم نہیں تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات شیخ موصوف نے محدث، ”بروزن بیت“ کہہ کر اپنے ذہن کا بوجھ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ورنہ کجا یہ بات کہ ”انہ تبع جمیع کتب الامام“ اس نے امام کی تمام تصانیف کا تقبیح کیا اور اس میں روایت نہیں ملی۔ یہ قریبہ ہے کہ امام صاحب اس سے واقف نہیں مگر یہ نہیں کہتا چاہیے، اور کجا یہ کہ ”كتاب البخاري و مسلم“، ”بخاري“ و ”مسلم“ کی دونوں کتابوں میں کوئی روایت نہ ملتے پر (فلم تجده فيهما) یہ نہیں کہہ سکتے کہ ”امام بخاري و امام مسلم“ اس سے ناواقف تھے بلکہ خود شیخ بھی اس سے بخوبی واقف ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم کی روایات صرف ”بخاری“ اور ”مسلم“ ہی میں نہیں۔

مزید برآں اگر امام بخاری زندگی میں ایک حدیث سے واقف نہیں۔ اس کا علم انہیں انی کے تلمیذ رشید امام ترمذی سے ہوتا ہے۔ (جامع الترمذی: مع التحفۃ ج ۴ ص ۱۹۵- ۳۳۰- ۳۳۱) تو اسے نہ امام بخاری نے اپنی کرسی کر شان سمجھا نہ امام ترمذی نے اس میں اپنی برتری تسلیم کروائی۔ اس لیے اگر بعد میں بھی امام بخاری کی تمام تصانیف کے تقبیح کے بعد حدیث نہ ملتے اور اسی کے نتیجہ میں کہہ دیا جائے کہ امام بخاری کو یہ حدیث نہیں ملی تو اس میں امام بخاری کی کوئی کرسی کر شان نہیں پھر جب اس حقیقت کے خود شیخ محمد عوامہ معرفت ہیں کہ

”من ادعى ان السنۃ اجتمعت کلها عند رجل واحد فشق

جس نے دعویٰ کیا کہ تمام سنت کا علم ایک آدمی کے ہاں جمع ہے وہ

فاسق ہے۔ (اثر الحدیث ص ۱۱۳)

تو پھر کسی بھی امام کے بارہ میں تمام روایات کے استیغاب کا دعویٰ کیوں نکر کیا جا سکتا

ہے اور ایسی مثالوں سے دل کو تسلی کیوں نکر دی جا سکتی ہے؟

### تأثیر کی دوسری وجہ

ائمه سلف کے اختلافات کے اسباب و وجہوں میں اس چوتھے سبب کو موخر ذکر کرنے کی دوسری وجہ شیخ محمد عوامہ یہ بتلاتے ہیں کہ

کسی امام کے بارے میں یہ کہنا کہ اسے یہ حدیث نہیں ملی  
رجحاً بالغیب ہے اور اس پر بلا جدت و بربان ایک الزام ہے کیا اس  
امام نے یہ کہا ہے کہ مجھے یہ حدیث نہیں ملی۔ (اثر الحدیث ص ۱۲۸)

ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مخفی ایک جذباتی اور عقیدت منداہ تاثر ہے۔ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ذرا شیخ موصوف دیانتداری سے بتائیں کہ مسئلہ وقف میں جو قاضی ابو یوسف نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کا علم امام ابو حنیفہ کو ہو جاتا تو وہ اس کی مخالفت نہ کرتے۔ اور خود آپ ہی نے یہ الفاظ نقل کئے۔ ”ولو تناهى هذالى ابى حنیفة لقال به د لمالخلفه“ (اثر الحدیث ص ۱۲۳) تو کیا امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ مجھے یہ روایت نہیں ملی؟ شاگرد رشید قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اگر انہیں علم ہو جاتا تو اس کی مخالفت نہ کرتے۔ پس یہی اصل بات ہے کہ کسی بھی امام کے بارے میں حسن ظن یہی ہونا چاہیے کہ وہ حدیث کی مخالفت نہیں کرتے۔ اگر کہیں ان کا قول و عمل حدیث کے مخالف نظر آئے تو اس کی ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ انہیں یہ روایت نہیں ملی۔ بتائیے اس میں توہین کیا ہے؟ بلکہ علامہ شعراویؒ کے حوالہ سے گزر چکا ہے کہ امام کے ساتھ ادب کا یہی تقاضا ہے۔ ائمہ مجتہدین سے پہلے حضرات صحابہ کرامؐ اور تابعین کرامؐ کے فتاویٰ پر جن حضرات کی نظر ہے وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ان کے بعض اقوال اور فتاویٰ بھی بعض صریح احادیث کے مخالف پائے جاتے ہیں اور اکثر و پیشتر علماء امت نے ان کے دفاع میں لکھی کہا ہے کہ انہیں یہ حدیث نہیں ملی۔ اگر ان کے پیش نظر یہ حدیث ہوتی تو اس کے مخالف قطعاً فتویٰ نہ دیتے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہؓ نے ”رفع الملام عن ائمۃ الاعلام“ (ص ۷ تا ۱۷) اور حافظ ابن حزم نے المحلج 2 ص 125-126 میں اس کی چند مثالیں بھی بیان کی

ہیں، تو کیا ان تمام روایات کے بارے میں کہیں یہ متفق ہے کہ ان صحابہ یا تابعین میں سے کسی نے یہ کہا ہو کہ ”ہمیں یہ حدیث نہیں ملی۔“

بلکہ علامہ محمد حیات سندھی مرحوم نے کہا ہے کہ انتہائی تعجب تاک بات یہ ہے کہ اگر مقلدین حضرات کو صحابہ کرام ہی سے کسی کا قول صحیح حدیث کے خلاف نظر آتا ہے اور وہ اس کا کوئی صحیح محمل بھی نہیں پاتے تو بلا تامل کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث اسے نہیں ملی ہے لیکن اگر اپنے امام کا قول حدیث صحیح کے خلاف نظر آئے تو اس کی تاویل کی پوری کوشش کرتے ہیں اور حامل بعیدہ پر محمول کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن اگر کہا جائے کہ شاید یہ حدیث امام صاحب کو نہیں ملی تو یہ حضرات اس پر قیامت کمری کر دیتے ہیں اور اس پر طعن و ملامت شروع ہو جاتا ہے۔ اور انہیں یہ بات انتہائی گراں گزرتی ہے۔ تھنڈنہ کو سوچنا چاہیے کہ یہ حضرات جناب ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ کے بارے میں تو باور کر لیتے ہیں کہ انہیں یہ حدیث نہیں ملی مگر اپنے امام کے بارے میں اس بات کو سننے کے روادر نہیں، ملخصاً ایقاظ الحرم مص ۷۱

جس سے مقلدین حضرات کے مزاج کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ شیخ محمد عوامہ کی یہ طول بیانی بھی اسی فکر کی آئینہ دار ہے۔

### پریشان خیالی

معلوم یوں ہوتا ہے کہ شیخ محمد عوامہ نے پریشان خیالی میں یہ سب باتیں کہی ہیں۔ ایک طرف تو وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہی بھی ایک امام کے پاس سنت کا تمام علم مجتمع نہیں خواہ وہ امام ابو حفیظ ہوں یا امام شافعی یا امام مالک یا امام احمد یا امام ثوری یا امام یث بن سعد یا امام او زاعی ہوں۔ (اثر الحدیث 123)

مگر دوسرا طرف کسی امام کی تمام تر کتابوں کے تیقی کے بعد ان سے حسن غن کی بنا پر یہ کہنے کی اجازت نہیں دیتے کہ انہیں یہ حدیث نہیں ملی بلکہ بڑی دلیری سے پوچھتے ہیں۔ ”هل قال له هذا الامر اماني لم اطلع على هذا الحديث“ کہ ”اے امام نے کہا کہ مجھے اس حدیث کا علم نہیں ہوا؟“

اسی طرح ایک طرف تو ائمہ کے اقوال اور ان کے فتاویٰ کو "حکم اللہ" "حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم" "تغیر حدیث" باور کرنے کے لیے بھی شدت سے درپے ہیں۔ (اثر الحدیث ص 92-93-94) مگر ساتھ ہی فقہاء و مجتہدین کے کچھ فتاویٰ کو "نواز العلاماء" "زلل العلاماء" "شواز العلاماء" بھی قرار دیتے ہیں۔ (اثر الحدیث ص 96-97)

اسی طرح ائمہ سلف کے مشور قول "اذ اصح الحدیث فهو مذهبی" کی توضیح میں فرماتے ہیں کہ صرف صحیح حدیث موجب عمل نہیں اس پر کسی کا عمل بھی ضروری ہے۔ کسی کو سند صحیح کے ساتھ حدیث دیکھ کر عمل کے درپے نہیں ہونا چاہیے۔ (اثر الحدیث ص 40-49-56-67) مگر یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک رائے یہ بھی ہے امام مسکلی نے اسی کو اولی قرار دیا ہے کہ حدیث صحیح ہو تو اس کی اتباع کرنی چاہیے اور انسان کو سمجھنا چاہیے کہ میں گویا آخر پرست صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں آپ کا فرمان سن کر عمل سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ (اثر الحدیث ص 74)

بتلایے اس تضاد بیانی اور پریشان خیالی کا ہم کیا علاج کر سکتے ہیں۔ یہ تمام مباحث چونکہ نفس موضوع سے خارج ہیں اسی لیے ہم انہیں نظر انداز کر رہے ہیں۔

### امام احمدؓ کیا ان احادیث سے ناواقف تھے۔ ؟

شیخ محمد عوامہ نے اسی بحث کے دوران امام احمد بن حبیلؓ کے بارے میں کہا ہے کہ انہیں بھی فلاں فلاں حدیث کا علم نہیں تھا۔ امام احمدؓ بھی بلاشبہ انسان تھے اور ان کے پاس بھی سنت کا تمام ذخیرہ نہ تھا۔ لیکن اس سلسلے میں جو مثالیں شیخ صاحب نے بیان کی ہیں وہ درست نہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

"امام ابو بکر الغفارلؓ" فرماتے ہیں کہ مجھے حسن بن احمد الوراقؓ نے بتلایا کہ مجھے علیؓ بن موسی الحداد نے بتلایا کہ میں امام احمدؓ اور محمدؓ بن قدامة الجوهري کے ہمراہ ایک جنازہ کے ساتھ تھا۔ جب میت کو دفن کیا گیا تو ایک ناپینا آدمی قبر کے پاس قرآن پڑھنے لگا۔ امام احمدؓ نے فرمایا قبر کے پاس قرآن پڑھنا بدعت ہے۔ جب ہم قبرستان

سے نکلے تو محمد بن قدامہ نے امام احمد سے کہا آپ کا بھرثا الحنفی کے بارے میں کیا خیال ہے۔ انہوں نے فرمایا وہ لفظ ہے۔ محمد بن قدامہ نے کہا مجھے بھرثا نے عبد الرحمن بن العلاء بن البلاج کے واسطے سے خبر دی ہے کہ اس کے باپ العلاء نے وصیت کی کہ جب مجھے دفن کر دیا جائے تو سر کے پاس سورۃ فاتحہ اور بقرہ کا ابتدائی حصہ اور آخری حصہ پڑھنا۔ میں نے ابن عمر سے سنا کہ وہ اس کی وصیت کرتے تھے۔ امام احمد نے یہ سن کر فرمایا جاؤ اور اس آدمی سے کہو کہ قبر پر قرآن پڑھے۔” (کتاب الروح ص ۱۷، اثر المحدث ص ۱۲۵)

شیخ محمد عوامہ نے اسی سلسلے میں مزید احادیث المحدث ص ۴۴۳-۴۲۸ اور تنہب ج ۶ ص ۳۲۰ کے حوالہ سے بھی چند روایات کا ذکر کیا ہے۔

جہاں تک کتاب الروح کے حوالہ سے امام ابو بکر الخلال کے ذکر کردہ واقعہ کا تعلق ہے۔ تو اولاً ”اس کی سند صحیح نہیں کیونکہ حسن بن احمد الوراق کا ترجمہ تبع بیمار کے باوجودہ نہیں ملا۔ شیخ العصر علامہ البانی حفظہ اللہ بھی لکھتے ہیں ”لم اجد له ترجمة نیما عندی الا ان من كتب الرجال“ وہ کہ اس وقت میرے پاس رجال کی جتنی کتابیں ہیں ان میں میں نے اس کا ترجمہ نہیں پایا۔“ (احکام الجائز حاشیہ ص ۱۹۲)

ثانیاً ”اس کے بر عکس امام ابو داؤد لکھتے ہیں۔

سمعت احمد سئل عن القراءة عند القبر؟ فقال لا۔ کہ میں نے امام احمد سے سن۔ ان سے قبر کے پاس قرآن پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا نہیں پڑھنا چاہیے (مسائل امام احمد بروایت امام ابو داؤد ص ۱۵۸۔ مجموعۃ ثقاوی ابن تیمیہ۔ ج ۲۴ ص 307-301۔ مسائل احمد بروایت ابن حبان ج ۱ ص ۱۹۰ و بروایت ابن احمد ج ۲ ص

(495-494)

مالا خود حافظ ابن قیم کا موقف بھی اس کے بر عکس ہے۔ لکھتے ہیں۔

”لعيڪن من هديه ان يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن لا عند

قبة ولا غيرة وكل هذا بدعة حادثة مكرورة“۔

”یہ آخر پرست صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ تھا کہ تعریف کے

لے جوں ہو کر میت کے لے قرآن پڑھا جائے نہ قبر کے نزدیک نہ  
کسی اور جگہ یہ سب نئی تکرہ بدعت ہے۔ (زاد المعاذن ج ۱ ص ۱۴۶)

اور اس سے چند طور پر لکھتے ہیں۔

”وَكَانَ أَذْفَغُ مِنْ دُفْنِ الْمَيْتِ قَامَ عَلَى قَبْرٍ هُوَ وَاصْحَابُهُ  
وَسَأَلَ لَهُ التَّبْيِنَ وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَسْأَلُوا إِلَهَ التَّبْيِنِ وَلَمْ يَكُنْ يَجِدُ  
يَقْرَأُ عِنْدَ الْقِيرَوْلَا يَلْعَقُنَ الْمَيْتَ كَمَا يَفْعُلُهُ النَّاسُ الْيَوْمَ۔“

کہ ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفن سے  
فارغ ہو جاتے تو آپ اور آپ کے صحابہ قبر پر کھڑے ہو جاتے اور  
میت کے لے کلہ توحید پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرتے اور صحابہ کو  
بھی حکم دیتے کہ وہ میت کے لے ثابت قدم رہنے کی دعا کریں۔  
آپ قبر کے پاس بیٹھ کر نہ قرآن پڑھتے تھے اور نہ ہی میت کو  
تلقین کرتے تھے جس طرح کہ آج لوگ کر رہے ہیں۔ (زاد المعاذن

(ص ۱)

۱) ابغاً اس اثر کی سند میں عبدالرحمن بن علاء بن البلاج مستور بلکہ مجھول ہے۔  
علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ اس سے بھرپر بن اسماعیل کے سوا کسی نے روایت بیان نہیں کی۔  
(میزان ج ۲ ص ۵۷۹) امام ابن الی حاتم نے البحر و التعديل میں اس کا ذکر کیا ہے۔ مگر  
کوئی جرح یا تعديل نقل نہیں کی (۱) البتہ امام ابن حبان نے ”الشقات“ (ج ۷ ص ۹۰)  
میں اس کا ذکر کیا ہے لیکن انہوں نے کے نزدیک تھا ان کی توثیق تعديل کے لے کافی نہیں۔  
یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر نے الترتیب (ص ۲۰۸) میں اس کے بارے میں کہا ہے۔  
(مقبول من السابعة) ”کہ وہ ساتویں طبقہ کا راوی ہے اور مقبول ہے۔ اور مقدمہ تقریب  
میں الفاظ جرح و تعديل کی تفصیل بیان کرتے ہوئے صراحت کی ہے کہ جس راوی کی  
روایات کم ہوں اور اس میں کوئی ایک بات ثابت نہ ہو جس سے اس کی حدیث کو چھوڑ دیا

---

(۱) البحر و التعديل میں امام ابن الی حاتم کا سکوت راوی کے مجھول یا مستور ہونے کی دلیل  
ہے ملاحظہ ہو ہماری کتاب توضیح الكلام ج ۲ ص ۴۴۲-۴۴۳

جائے تو اس کی طرف مقبول سے اشارہ کیا گیا ہے جبکہ اس کی متابعت ہو ورنہ وہ لین الحدیث ہو گا اور زیر بحث اثر میں چونکہ عبدالرحمن "کا کوئی متالع نہیں اس لیے وہ حافظ ابن حجر" کے نزدیک لین الحدیث ہے "مقبول" نہیں۔ لہذا جب نہ اس واقعہ کی سند صحیح اور نہ ہی اثر سدا "صحیح" ہے تو اس سے مطلوبہ بات پر استدلال کیوں کر درست ہو سکتا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو۔ (احکام الجماز ص ۱۹۱-۱۹۳)

اسی طرح "العلل المتناهية" کے حوالہ سے جن روایات کی ثاندہی کی گئی ہے کہ وہ امام احمد" کو نہیں ملیں۔ وہ بھی مخفی شیخ موصوف کی عجلت یا عدم تذیر کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ العلل المتناهية رج ۱ ص ۴۲۸ کے حوالہ سے جس روایت کی طرف اشارہ ہے وہ "صلادة خلف كل بروفاجر" ہے۔ جسے علامہ ابن جوزی" نے مختلف طریق سے نقل کرنے کے بعد ان پر جرح کی ہے اور آخر میں لکھا ہے۔

"قال العقيلي ليس في هذا المتن أسناد يثبت وقال الدارقطني  
ليس فيها ما يثبت أسناده وسئل احمد بن حنبل عن هذا الحديث  
صواب خلف كل بروفاجر فقال ما سمعنا بهذا -"

کہ "امام عقیلی" نے کما کہ اس متن کی کوئی سند ثابت نہیں  
امام دارقطنی" نے بھی کہا ہے کہ ان میں کسی کی سند ثابت نہیں اور  
امام احمد" سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے  
فرمایا ہم نے یہ نہیں سن۔"

اس قسم کا جملہ اس روایت کے ضعیف اور موضوع ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔  
ملفقا اس کے وجود کی نظر یا اس سے بے خبری مقصود نہیں ہوتی جس کی تفصیل ہمارے  
رسالہ "احادیث پڑا یہ" میں دیکھی جاسکتی ہے مگر شیخ محمد عوامہ سمجھ رہے ہیں کہ امام احمد" کو  
اس کا علم نہ تھا۔

اسی طرح "العلل" کے حوالہ سے جس دوسری روایت کی طرف شیخ صاحب نے  
اشارة کیا ہے کہ وہ امام احمد" کو نہیں ملی۔ اس کی حقیقت بھی ملاحظہ فرمائیں کہ امام ابن  
جوزی" نے "حدیث لا صلاة لمن عليه صلاة" کا عنوان قائم کر کے پہلے یہ کہا ہے "هذا  
حدیث نسمعه من السنة الناس وما عرفنا له اصلاً" کہ یہ حدیث ہم لوگوں کی زبان سے

سنتے ہیں حالانکہ اس کی کوئی اصل نہیں۔“ اس کے بعد امام ابن جوزیؓ نے اپنی سند سے امام ابراہیم الحبیؓ سے نقل کیا ہے کہ:-

”قیل لاحمد ما معنی حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن علیہ صلوٰۃ قال لا اعرف هذَا البتة۔“

(العلل المتأھلة ج 1 ص 443)

”امام احمدؓ سے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا صلاة لمن علیہ صلوٰۃ کے کیا معنی ہیں تو انہوں نے فرمایا میں اسے نہیں پچھاتا۔“

غور فرمایا آپ نے کہ علامہ ابن جوزیؓ کا مقصود کیا ہے۔ اور امام احمدؓ کیا فرمائے ہیں کہ زبان زد عوام اس روایت کو میں نہیں جانتا۔ جس سے مقصود اس کی صحت سند کا انکار ہے مگر شیخ محمد عوامہ اس ”حدیث“ کو کویا صحیح سمجھ کر اس سے امام احمدؓ کی بے خبری کا ثبوت دے رہے ہیں اور لکھتے ہیں:- ”هذَا امْثَلَةٌ عَلَىٰ فَوَاتِ حَدِيثِ الْإِمَامِ مِنَ الْأَئمَّةِ“ کہ ائمہ میں سے ایک امام کے پارے میں احادیث نہ ملنے کی یہ مثالیں ہیں جن سے وہ بے خبر تھے۔ لاحول ولا قوّۃ الا بالله

اور یہی کچھ حال اس روایت کا بھی ہے جسے تہذیب اتہذیب (ج 6 ص 320) کے حوالہ سے اس سلسلے میں شیخ محمد عوامہ نے پیش کیا ہے اس ذکر سے ہمارا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ امام احمدؓ تمام احادیث سے واقف تھے۔ بلکہ صرف اس بات کی وضاحت مطلوب ہے کہ اس سلسلے میں شیخ محمد عوامہ نے جن مثالوں کا ذکر کیا ہے وہ درست نہیں۔

اس کے علاوہ اور بہت سی الیکس باشی اس کتاب میں نظر آتی ہیں جنہیں شیخ محمد عوامہ نے ”حنفیت“ کو بچانے کے لیے بڑی مصصومیت نما ہوشیاری سے پیش کیا ہے مگر ان کا اصل موضوع سے کوئی جوہری تعلق نہیں۔ آپ دیکھ آئے ہیں کہ اختلاف فقیماء کے پارے میں جن چار عوامل کا نشانہ ہی کی گئی ہے ان میں سے صرف دو کا تعلق نفس مسئلہ سے ہے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے بھی ان کا تذکرہ کیا ہے مگر ان کے ضمن میں بھی جو کچھ کہا گیا اس میں ذہنی تحفظات کے اثرات نمایاں نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عصیت جاہلیہ سے بچائے اور تمام ائمہ دین سے یکساں محبت و مودت کی توفیق بخشے۔ (آمين)

ایک شاہکار، ایک معركہ الکاظمینف، موضوع پر ایک انائیکلو پیڈیا۔

## توضیح الكلام فی وجوب القراءة خلف الاما

جس میں قرآن پاک، صحیح احادیث اور اسناد سلف کے ناقابل تردید  
حوالوں سے ثابت کیا گیا ہے کہ امام ہو یا مقتدی یا منفرد، کسی کی نماز  
سُورَةٌ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ نیز مؤلف حسن الكلام کے مغالطا  
اور ان کی اصولی و اصطلاحی لغزشوں اور بے شمار علمی خیانتوں اور  
تضاد بیانیوں کو یوں اجاگہ کیا گیا ہے کہ جسے پڑھ کر ہر منصف  
مزاج دادِ تحسین دیتے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جس کے بارے میں  
استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ رحمانی مدح  
مبادرپوری اپنے مکتوبِ گرامی میں لکھتے ہیں:-

”توضیح الكلام میں تحقیق و تنقید اور جواب و تردید کا حق ادا  
کر دیا ہے۔ یہ کتاب ہر اہل حدیث عالم و غیر عالم کے مطالعہ میں  
رہنمایا چاہئے۔“

ہفت روزہ الاعتصام کے مبصر مولانا قاری نعیم الحنفی صاحب رقمطراز ہیں:  
لدویہ کتاب اپنے موضوع پر ایک انسائیکلو پیڈیا ہے جس میں  
مسئلہ زینہ سخت کے کسی گوشہ کو تشنیز و تحقیق نہیں چھوڑا گیا۔ اور  
مسئلہ اصول حدیث، فنِ رجال وغیرہ کے متعلق ایسے قسمیتی جواہر  
بنیادی نکالا اور اساسی قواعد بھی بیان ہو گئے جو ایک ذیل میں اور مختصر  
طائف علم کو شاید بڑی کٹائیں پڑھنے کے بعد بھی حاصل نہ ہو سکیں۔ (دارہ)  
لئے:- دیجیئے توضیح الكلام جلد ۲

# اصارہ کوڈ مطبوعات

1. العلل المتناهية في الأحاديث الواهية
2. إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر للمحدث شمس الحق الديانوی
3. المسند للإمام أبي يعلى أحمد بن على بن المثنى الموصلى (چھپنیم جلد ۲ میں)
4. المعجم للإمام أبي يعلى الموصلى
5. مسنن السراج، للإمام أبي العباس محمد بن اسحق السراج
6. المقالة الحسني (المغرب) للمحدث عبد الرحمن المبارڪفوري
7. جلاء العينين في تغريیج روایات البخاری فی جزء رفع الیدين للشيخ الأستاذ بدیع الدین شاہ الرشیدی
  
8. إمام دارقطنی
9. صحاح سہہ اور ان کے مؤلفین
10. موضوع حدیث اور اس کے مراجع
11. عدالت صحابہ رض
12. کتابت حدیث تا عہد تا یعنی
13. الناسخ والمنسوخ
14. احکام الجائز
15. محمد بن عبد الوہاب
16. قادریانی کافر کیوں؟
17. پیارے رسول صلی اللہ علیہ و آله و سلم کی پیاری نماز
18. مسئلہ قربانی اور پروین
19. پاک و ہند میں علمائے الحمدیث کی خدماتِ حدیث
20. توضیح الكلام فی وجوب القراءۃ خلف الإمام
21. احادیث ہدایی: فقی و تحقیق حیثیت
22. آفات نظر اور ان کا علاج
23. فتاویٰ رجب للإمام أبي بكر الغلال
24. تبیین العجب لمعالظ ابن حجر العسقلانی
25. مولانا سرفراز صدر اپنی تصانیف کے آئینہ میں
26. آئینہ ان کو دکھایا تو برآمان گئے
27. حرزاً المؤمن
28. احادیث صحیح بخاری و مسلم کو مت ہی داستانیں بنانے کی تاکام کوشش
28. امام بخاری پر بعض اعترافات کا جائزہ
29. مسلک اہم حدیث اور تحریکات جدیدہ
31. اسباب اختلاف القبهاء
32. مشاجرات صحابہ رض اور سلف کا موقف